



THE
SENATE OF PAKISTAN
DEBATES

OFFICIAL REPORT

Thursday, November 18, 1976

CONTENTS

	PAGES
Starred Questions and Answers	145
Adjournment Motion <i>Re: Failure of Federal Government to persuade the Indian Government to stop construction of Salal Dam on River Chenab—Deferred</i> ..	150
Motion <i>Re: Authorisation of Standing Committee to recommend crest for the Senate—Referred</i>	150
Standing Committee Report <i>Re: The Newspaper Employees (Conditions of Service) (Amendment) Bill, 1976—Presented</i>	150
Standing Committee Report <i>Re: The Fee-charging Employment Agencies (Regulation) Bill, 1976—Presented</i>	151
Leave of Absence	151
The Cost and Industrial Accountants (Amendment) Bill, 1976— <i>Passed</i>	152
The Esso Undertakings (Vesting) Bill, 1976— <i>Referred to the Standing Committee</i> ..	154
The National Registration (Amendment) Bill, 1976— <i>Passed</i>	154
The Flour Milling Control and Development (Amendment) Bill, 1976— <i>Passed</i> ..	171

SENATE DEBATES
SENATE OF PAKISTAN

Thursday, November 18, 1976

The Senate of Pakistan met in the Senate Chamber (State Bank Building), Islamabad, at ten of the clock in the morning, Mr. Deputy Chairman (Mr. Tahir Mohammad Khan) in the Chair.

(Recitation from the Holy Quran)

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Deputy Chairman : Yes, gentlemen, Mr. Kamran Khan.

Free Trade Zone for Peshawar

11. ***Mr. Kamran Khan :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether the Consultants appointed for preparing feasibility report for establishing a Free Trade Zone have also been charged with the responsibility for preparation of a feasibility report on a Free Trade Zone for Peshawar ?

Mian Mohammad Attaullah (Minister for Industries) : No. The Consultants are presently investigating the possibility of locating feasible Free Trade Zones at suitable places in Pakistan.

Mr. Kamran Khan : Supplementary, Sir.

Mr. Deputy Chairman : Yes ?

Mr. Kamran Khan : Will the honourable Minister be pleased to state whether it is a fact that the idea of having a "Free Trade Zone" was conceived as early as sixties.

Mian Mohammad Attaullah : It is not in my knowledge.

جناب ڈپٹی چیئرمین : انکے علم میں نہیں ہے - آپ مزید کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ؟

Mr. Kamran Khan : Another supplementary, Sir.

Will the honourable Minister be pleased to state as to what would be the criterion for setting up the Free-Trade Zones ?

Mian Mohammad Attaullah : Sir, the Consultants, at the moment, are exploring the possibility, and they have a wide field—all the cities of Pakistan, open in front of them, but the criteria is that these Free Trade Zones and bonded houses—these facilities are specially being set up to promote exports and other relevant factors. That is the criteria. So, they are going to consider all places, and they are expected to give their report by the middle of December. Only after the report is received from them any decision can be taken.

Mr. Kamran Khan : Will the honourable Minister be pleased to state whether Peshawar also qualifies for such a facility ?

Mian Mohammad Attaullah : This is for the Consultants to suggest. They are going to give in their reports the names of cities which qualify for such Free Trade Zones.

Mr. Deputy Chairman : Any other supplementary ?

(Pause)

Mr. Deputy Chairman : None. Next question No. 12.

Provincial Quota in PICIC, IDBP and ICP

12. ***Mr. Kamran Khan :** Will the Minister for Finance, Planning and Development be pleased to state the number of Officers from each province in the Pakistan Industrial Credit and Investment Corporation, Industrial Development Bank of Pakistan and Investment Corporation of Pakistan holding the following posts :

- (a) Managing Director.
- (b) Deputy Managing Director.
- (c) Department Chief.
- (d) Deputy Department Chief.
- (e) Assistant Department Chief.

Rana Mohammad Hanif Khan : (Minister for Finance, Planning and Development): The number of officers from each province in the PICIC, IDBP and ICP is as under :—

PAKISTAN INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORPORATION

Category	Punjab	Sind	NWFP	Baluchis- tan	Azad Kashmir	Total
1	2	3	4	5	6	7
Managing Director	—	—	1	—	—	1
Deputy Managing Director	1	1	—	—	—	2
Department Chief	1	9	—	—	—	10
Deputy Department Chief	3	3	—	—	1	7
Assistant Department Chief	2	8	—	—	—	10
Total ..	7	21	1	—	1	30

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF PAKISTAN

Category	Punjab	Sind	NWFP	Baluchis- tan	Azad Kashmir	Total
1	2	3	4	5	6	7
Managing Director	1	—	—	—	—	1
Deputy Managing Director	1	1	—	—	—	2
Department Chief/Senior Staff Officers ..	7	9	—	—	—	16
Deputy Department Chief/Officers Grade-I	9	11	1	1	—	22
Assistant Department Chief/Officers Grade-II	14	31	—	1	—	46
Total ..	32	52	1	2	—	87

INVESTMENT CORPORATION OF PAKISTAN

Managing Director	—	1	—	—	—	1
Deputy Managing Director	1	—	—	—	—	1
Department Chief/Branch Manager ..	8	7	1	—	—	16
Deputy Department Chief/Additional Manager	1	8	1	1	—	11
Assistant Department Chief/Assistant Manager	4	3	1	—	—	8
Total ..	14	19	3	1	—	37

Mr. Kamran Khan : Supplementary, Sir.

Mr. Deputy Chairman : Yes.

Mr. Kamran Khan : Will the honourable Minister be pleased to state whether the deficiency in respect of Frontier and Baluchistan would be made up according to the quota fixed by the Central Government ?

Rana Mohammad Hanif Khan : Yes, Sir. That is the policy of the Government. Actually whenever there is any deficiency and the requirements of the orders of the Government in respect of the quota which has been allocated have not been satisfied, it is then satisfied. It is now done. Actually this is a situation which has been existing for a very long time. Now, a criteria has been laid down, and all efforts are being made to see that the quota which is allocated to respective provinces goes to them.

Mr. Deputy Chairman : Any other supplementary ?

(Pause)

Mr. Deputy Chairman : None. Next question No. 7 by Khawja Mohammad Safdar.

ENCASHMENT OF DEMONETISED NOTES SURRENDERED BY POWS

7. ***Khawaja Mohammad Safdar (Leader of the Opposition)**: Will the Minister for Finance Planning and Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that P.O.Ws after their repatriation from Bharat surrendered Pakistani currency to the Government officials at the border ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the steps so far taken to returned the money to the P.O.Ws;

(c) whether it is a fact that some widows were included in the P.O.Ws mentioned in part (a) above; and

(d) if answer to (c) above be in the affirmative, whether Government has returned the money to them if not, the reasons therefor ?

Rana Mohammad Hanif Khan (a) Demonetised notes held by returning Prisoners of War and Civilian Internees were collected at reception camps on Pakistan border by the State Bank of Pakistan.

(b) Out of 54,984 P.O.Ws who surrendered demonetised notes of the value of Rs. 1,24,16,335, the claims of 54,919 amounting to Rs. 1,20,78,250/- have been decided for *ex-gratia* payment. Against this actual payment amounting to Rs. 61,85,483/- has been made in 20,907 cases as on 10th November, 1976.

(c) No such declaration was obtained at the time of collection of demonetised notes. However, demonetised notes were collected from ladies also.

(d) *Ex-gratia* payment to female claimants which may include widows is also being made.

Khawaja Mohammad Safdar : Supplementary, Sir.

Mr. Deputy Chairman : Yes.

خواجہ محمد صفدر (قائد حزب اختلاف) : کیا میں معترم وزیر صاحب سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ۵۴۹۸۴ پاکستانی جنگی قیدیوں سے انہوں نے رقمیں وصول کی ہیں اور کم و بیش چار سال میں انہوں نے ۲۰۹۶۰ کیس ڈسپوز آف کئے ہیں اور ان پر احکامات جاری ہوئے ہیں اسکی کیا وجہ ہے، اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے ؟

Rana Mohammad Hanif Khan : It was because of the time taken by the authorities who investigated these cases. Now, as I have stated most of the cases have been decided. Only, a few have been left and payments have been made in respect of these persons.

خواجہ محمد صفدر : جناب چیئرمین ! غالباً میں اپنی گزارش معترم وزیر صاحب کے سامنے وضاحت سے پیش نہیں کر سکا انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ

جناب ڈپٹی چیئرمین : آپ نے تاخیر کی وجہ پوچھی تھی انہوں نے ارشاد فرما دیا

ہے -

خواجہ محمد صفدر : صرف چند کیس باقی ہیں میں عرض کرتا ہوں کہ ۵۴ ہزار میں سے ۲۰ ہزار کیس باقی ہیں -

More than 60 % cases are yet to be decided what is the reason for this delay ?

Rana Mohammad Hanif Khan : I think, if the honourable member looks to part (b) of the reply it is mentioned that out of 54,984 P.O.Ws, who surrendered demonetised notes of the value of Rs. 1,24,16,335/-, the claims of 54,919 amounting to Rs. 1,20,38,250/- have been decided for *ex-gratia* payment. So, these cases have been decided but payment has been made in respect of 20,907 cases. Only 65 cases are left still for decision.

These are two things. Decision has been taken in respect of a larger number, but the payment has been made only in 20,907 cases. However, payment in respect of other cases will also be made since the decision has already been taken.

Mr. Deputy Chairman : His point is that so far we have only made payment in 20,907 cases. Why the payment has not been made in the case of other thirty thousand people ?

Khawaja Mohammad Safdar : Thirty four thousand, Sir.

Rana Mohammad Hanif Khan : I understand. The point is that in most cases decision has been taken for *ex-gratia* payment.

Mr. Deputy Chairman : He is asking about the actual payment.

Rana Mohammad Hanif Khan : Exactly, Sir, when the decision has been taken the payment will also be made.

خواجہ محمد صفدر : میں عرض کرتا ہوں کہ محترم وزیر خزانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ چار سال میں ان کے مقدمات اور دعویوں کا فیصلہ ہوا ہے تو اب ادائیگی کرنے میں کیا وقت ہے ان کو ادا کریں ؟

Rana Mohammad Hanif Khan : The honourable Member is very anxious to see that the payment is made expeditiously. I have already stated that since the decision has been taken the payment will be made, but I cannot give the exact date.

Khawaja Mohammad Safdar : I do not want the exact date.

Mr. Deputy Chairman : He is expediting the payment. So, your purpose is served.

Khawaja Mohammad Safdar : Right, Sir.

Mr. Deputy Chairman : Any other supplementary ?

(Pause)

Mr. Deputy Chairman : There is also no other question.

Then we take up adjournment motions.

ADJOURNMENT MOTION *RE*: FAILURE OF FEDERAL GOVERNMENT
TO PERSUADE THE INDIAN GOVERNMENT TO STOP CONSTRUCTION OF SALAL DAM ON RIVER CHENAB

Mr. Deputy Chairman : This is adjournment motion No. 6, which is connected with the foreign affairs. As the Minister of State for Foreign Affairs is not here we can postpone it further. So it is postponed. Next we take up item No. 3.

MOTION *RE* : AUTHORISATION OF STANDING COMMITTEE TO
RECOMMEND CREST FOR THE SENATE

Malik Mohammad Akhtar (Minister for Law and Parliamentary Affairs) : Sir, I beg to move :

“That this House authorise the Standing Committee on Cabinet, Establishment, Law and Parliamentary Affairs, Education and provincial Coordination, Tourism and Minorities’ Affairs to recommend a suitable design of a crest for the Senate. The Committee may submit its report by the 20th December, 1976.”

Mr. Deputy Chairman : The motion made is

“That this House authorise the Standing Committee on Cabinet, Establishment, Law and Parliamentary Affairs, Education and Provincial Coordination, Tourism and Minorities’ Affairs to recommend a suitable design of a Crest for the Senate. The Committee may submit its report by the 20th December, 1976.”

Khawaja Mohammad Safdar : Not opposed.

Mr. Deputy Chairman : No opposition. I will put the question.

The question before the House is :

“That this House authorise the Standing Committee on Cabinet, Establishment, Law and Parliamentary Affairs, Education and Provincial Coordination, Tourism and Minorities’ Affairs to recommend a suitable design of a Crest for the Senate. The Committee may submit its report by the 20th December, 1976.”

(The motion was adopted)

Mr. Deputy Chairman : None against, therefore, the motion is adopted.

Next is item No. 4, Mr. Nargis Zaman Khan Kiani.

STANDING COMMITTEE REPORT *RE*: THE NEWSPAPER EMPLOYEES
(CONDITIONS OF SERVICE) (AMENDMENT) BILL, 1976

جناب نرگس زمان کیانی : جناب چیئرمین ! میں اخباری ملازمین شرائط ملازمت ایکٹ ۱۹۷۳ء میں مزید ترمیم کرنے کا بل [اخباری ملازمین (شرائط ملازمت) (ترمیمی) بل، ۱۹۷۶ء] مجلس قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔

Mr. Deputy Chairman : The report is presented. Next.

STANDING COMMITTEE REPORT *RE* : THE FEE-CHARGING EMPLOYMENT AGENCIES (REGULATION) BILL, 1976

جناب نرگس زمان خان کیانی : جناب چیئرمین ! میں فیس وصول کرنے والی اور دیگر روزگار ایجنسیوں کی کار آوری کو جو پاکستان کے اندر کارکنوں کیلئے روزگار کے انتظام سے نفع حاصل کرنے کے خیال سے چلائی جاتی ہیں منضبط کرنے کا بل [فیس وصول کرنے والی روزگار ایجنسیاں (انضباط) بل، ۱۹۷۶] پر قائلہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔

Mr. Deputy Chairman : The report on the Bill to regulate the working of fee-charging and other employment agencies conducted with a view to profit for placement of workers within Pakistan [The Fee-Charging Employment Agencies (Regulation) Bill, 1976], is presented.

Next is No. 6.

Leave of absence

Mr. Afzal Khan Khoso : Sir, may I make an oral request for leave for Senator Qazi Faizul Haque. He has asked me to request the House for leave of absence for three days.

Mr. Deputy Chairman : There is an oral request by Senator Khoso that Senator Qazi Faizul Haque has requested the leave of absence from the Senate.From which date to which date ?

Mr. Afzal Khan Khoso : From Wednesday to Friday.

Mr. Deputy Chairman :From Wednesday to Friday. Is the leave granted ?

(The leave was granted)

Mr. Deputy Chairman : Next is item No. 6.

Malik Mohammad Akhtar : Sir, we may with your kind permission take up these items like this. The items relating to Finance Minister and Fuel and Power Minister are probably to be referred to the Committees concerned if Khawaja Sahib has to move motions in this connection. Therefore, we may take them up, and thereafter we may take up Khan Qaiyum Sahib's Bill and Ch. Mumtaz's Bill.

Mr. Deputy Chairman : Do I have the permission of the House to....

Rana Mohammad Hanif Khan : Sir, may I make a statement. Now, Khawaja Sahib has read my Bill. It is a very small Bill. It is a change of nomenclature, etc. and nothing controversial. In this way we can save some time. I have already requested to honourable Khawaja Sahib and he says we can take it up.

خواجہ محمد صفر : مجھے جناب والا ! محترم وزیر صاحب سے سخت شکایت ہے۔ انہوں نے کل کہا تھا کہ تین بل آئینگے اور آج ایوان کے سامنے چھ بل رکھ دیئے ہیں۔ یقین جانیئے میں انہیں نہیں دیکھ سکا کیونکہ رات کے دو بجے کے قریب یہ آئے ہیں۔

Rana Mohammad Hanif Khan : This is a small Bill, and can be taken up.

Mr. Deputy Chairman : There are two requests. First is that Items No. 14 and 15 may be taken up at No. 6 and 7 and items No. 16 and 17 may be taken as items No. 8 and 9. Do we have the permission of the House to take these items earlier ?

(The motion was adopted)

Mr. Deputy Chairman : Now, it is item No. 14, Rana Mohammad Hanif Khan,

THE COST AND INDUSTRIAL ACCOUNTANTS (AMENDMENT) BILL,
1976

Rana Mohammad Hanif Khan : Sir, I beg to move :

“That the Bill to amend the Cost and Industrial Accountants Act, 1966 [The Cost and Industrial Accountants (Amendment) Bill, 1976], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

Mr. Deputy Chairman : The motion made is :

“That the Bill to amend the Cost and Industrial Accountants Act, 1966 [The Cost and Industrial Accountants (Amendment) Bill, 1976], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

Khawaja Mohammad Safdar : Amendment not moved.

Mr. Deputy Chairman : Well, there was an amendment, but it is not moved. So, we can take the Bill.

Rana Mohammad Hanif Khan : May I explain it in a few words, Sir.

Mr. Deputy Chairman : Yes.

Rana Mohammad Hanif Khan : Sir, the only thing is that the Pakistan Institute of Cost and Industrial Accountants which is a statutory body was established under the Cost and Industrial Accountants Act, 1966. This Institute regulates the profession of Cost and Industrial Accountants. They have a Council to run the affairs of this Institute and of the people in the profession and have been finding some difficulties as far as the nomenclature is concerned. Now, to bring the nomenclature, the designations, etc. in line with the nomenclature which is used all over the world, they have themselves through a vote decided that their nomenclature should be changed. The result will be that there will be change in the title from Cost and Industrial Accountants Act, 1966 to Cost and Management Accountants Act, 1976. This is No. 1.

Number 2 will be the redesignation of its members as Cost and Management Accountants from Cost and Industrial Accountants.

Number 3 will be the change in the use of designatory letters, *i.e.*, ACMA and FCMA instead of APIA and FPIA respectively to indicate the association, membership and fellowship of the Institute.

The fourth amendment will be the change in the nomenclature of the Institute from Pakistan Institute of Industrial Accountants to Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan. That is all, Sir.

Mr. Deputy Chairman : Any other speech ? No. Then, I will put the question. The question before the House is :

“ That the Bill to amend the Cost and Industrial Accountants Act, 1966 [The Cost and Industrial Accountants (Amendment) Bill, 1976], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

(The motion was adopted)

Mr. Deputy Chairman : The motion is adopted. Now, we take the Bill clause by clause. I think, there is no amendment in this Bill, therefore, I put all the clauses together.

The question before the House is :

“ That Clauses 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 form part of the Bill.”

(The motion was adopted)

Mr. Deputy Chairman : The motion is adopted and clauses from 2 to 17 form part of the Bill.

Now, the question before the House is :

“ That the Preamble, Title and Clause 1 form part of the Bill.”

(The motion was adopted)

Mr. Deputy Chairman : The Preamble, Title and Clause 1 form part of the Bill.

Next is No. 15.

Rana Mohammad Hanif Khan : Sir, I beg to move :

“ That the Bill to amend the Cost and Industrial Accountants Act, 1966 [The Cost and Industrial Accountants (Amendment) Bill, 1976], be passed.”

Mr. Deputy Chairman : The motion made is :

“ That the Bill to amend the Cost and Industrial Accountants Act, 1966 [The Cost and Industrial Accountants (Amendment) Bill, 1976], be passed.”

It is not opposed, therefore, I put the question.

The question before the House is :

“ That the Bill to amend the Cost and Industrial Accountants Act, 1966 [The Cost and Industrial Accountants (Amendment) Bill, 1976], be passed.”

Mr. Deputy Chairman : The Bill is adopted.

Malik Mohammad Akhtar (Minister for Law and Parliamentary Affairs): May I, Sir,

Mr. Deputy Chairman : Next, motion No. 16

THE ESSO UNDERTAKINGS (VESTING) BILL, 1976.

Malik Mohammad Akhtar : Sir, I beg to move that :

“ the Bill to provide for vesting in the Federal Government of certain undertakings of Esso Eastern Inc. in Pakistan [The Esso Undertakings (Vesting) Bill, 1976], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

Mr. Deputy Chairman : The motion moved is,

“ the Bill to provide for vesting in the Federal Government of certain undertakings of Esso Eastern Inc. in Pakistan [The Esso Undertakings (Vesting) Bill, 1976], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

Khawaja Mohammad Safdar : With your permission, Sir,

“ I beg to move that the Bill to provide for vesting in the Federal Government of certain undertakings of Esso Eastern Inc. in Pakistan [The Esso Undertaking (Vesting) Bill, 1976] as passed by the National Assembly, be referred to the Standing Committee concerned.”

Mr. Deputy Chairman : The motion moved is,

“ I beg to move that the Bill to provide for vesting in the Federal Government of certain undertakings of Esso Eastern Inc. in Pakistan [The Esso Undertaking (Vesting) Bill, 1976] as passed by the National Assembly, be referred to the Standing Committee concerned.”

Malik Mohammad Akhtar : Not opposed, Sir.

Mr. Deputy Chairman : The motion is not opposed. Therefore, the Bill stands referred to the Standing Committee concerned. Next, No. 12.

THE NATIONAL REGISTRATION (AMENDMENT) BILL, 1976

Mr. Abdul Qaiyum Khan (Minister for Interior, States and Frontier Regions) : Sir I beg the move :

“ That the Bill further to amend the National Registration Act, 1973 (The National Registration (Amendment) Bill, 1976), as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.”

Khawaja Mohammad Safdar : Opposed.

Mr. Abdul Qaiyum Khan : Sir, I wish to explain the objects in brief. Firstly, there is one item; change in the designation of the officers of the Registration Organisation. The organisation has expanded considerably and has been detached from the Interior Division proper. It has now become an Attached Department of the Interior Division. Therefore, the designation of Registrar General is being changed to Director General, Registration, and similarly the designation of other officers is being changed to bring it in line with the officers of other Attached Departments.

The second point is that we are increasing the punishment in section 11. Previously the punishment was 15 days simple imprisonment or a fine of Rs. 50/- Now it will be 3 months' imprisonment or Rs. 100/- fine or both. The reasons are as follows :

Sir, in the original Bill in sub-section 2 of section 11 reads thus; 'any person who attests or verifies any statement or information furnished for the purpose of this Act, which he knows or has reason to believe to be false in any material part or which he does not believe to be true shall be punished with fine not exceeding Rs. 1,000/- or rigorous imprisonment for a period not exceeding three months, or with fine not exceeding one thousand rupees, or with both. So, under section 11, sub-section (2) the attester who attests certain things knowing them to be false the punishment provided is Rs. 1,000/- fine or three months' imprisonment or both.

We have found, Sir, that in the operation of the scheme that the applicants, who happen to be foreigners in most cases and have ulterior motives for managing to obtain Pakistan National Identity Cards by furnishing wrong information and passing themselves as Pakistanis. With a view to counter the menace of foreign nationals obtaining Pakistani Identity Cards this punishment is being increased in the case of the applicant and also in the case of the attester.

Sir, in order to check the foreigners who are not entitled to obtain identity cards, which are meant purely for Pakistani nationals, the Government of Pakistan has appointed special staff in the F.I.A. who periodically go and check these applications, and where they are not satisfied, they see that those applications of foreigners are rejected, thrown out, and they are prosecuted. We have also now got Inspectors who go around and check those cards which have already been issued.

Sir, many cases have come to light where foreign nationals, some of whom have come for sabotage in this country, have obtained identity cards by unfair means and, therefore, they make false statements in their applications, and it has become necessary to increase the punishment and make it the same as for attestors; it is only Rs. 1,000/- fine, three months' imprisonment or both.

Now, the question is that in this case, as the House is very well aware, we did not allow the police to intervene or interfere or harass the citizens.

No complaint can be filed by any person except the head of the District Registration Organisation. He, as gazetted officer, files the complaint and, therefore, any apprehension, any fear, that there will be any harassment on the part of the police. We have taken care of that and only when a civilian gazetted officer is convinced that there is a genuine case then he will put a complaint. Nobody can be punished except in due process of law, and when he has got the right of appeal. So, there is no apprehension. This is a non-contentious measure, and I hope the House will accept it.

Mr. Deputy Chairman : Yes, Khawaja Mohammad Safdar.

خواجہ محمد صفر : جناب چیئرمین ! میں ابتدا ہی میں اس بات کا اعتراف کئے دیتا ہوں کہ میں نے یہ بل نہیں پڑھا - محترم وزیر قانون صاحب نے کل مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ آج اس ایوان میں اگریرین مینیجمنٹ کے متعلق تین بل پیش کریں گے بحث کیلئے اور منظوری کے لئے - اگر یہ آرڈر آف دی ڈے شام کے قریب یا میرے جاتے ہوئے آجانا تو شاید

[Khawaja Mohammad Safdar]

میں کچھ پڑھ کر آتا = لیکن بارہ بجے کے بعد جب میں سو گیا تو خبر نہیں کس وقت میرے کمرے میں یہ آرڈر آف دی ڈے پھینکا گیا اور میرا خیال نہیں تھا کہ یہ آج ٹیک آپ کئے جائیں گے = لیکن میں ایک بات کی طرف آپ کی اور آپ کے توسط سے اس ہاؤس کے معزز اراکین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس ایوان کے معزز اراکین کو معلوم ہے بلکہ وہ ہر روز اس قسم کی تصدیق خود کرتے ہیں = ان درخواستوں کی جو کہ شناختی کارڈ بنوانے کیلئے دی جاتی ہیں = ایم این ایز - ایم پی ایز - سینیٹرز - اس قسم کے احباب جو کہ ان درخواستوں کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ ان کی تصدیق کے بغیر محکمہ وہ درخواست قبول نہیں کرتا = تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ سینیٹرز - ایم این ایز - ایم پی ایز - دنیا بھر کے لوگوں کو تو جانتے نہیں ہوتے = تو درخواست دہندہ کو ایک دو سوال کرنے کے بعد تسلی کر کے اسکی درخواست کی تصدیق کر دیتے ہیں = ورنہ لوگ مارے مارے پھرتے ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کی پریشانی کے پیش نظر کوئی زیادہ تحقیقات نہیں کیجاتی = تو ایسی صورت میں ایم این ایز - ایر ایم پی ایز اور سینیٹرز جن کے ذمے آپ نے یہ فرض عائد کیا ہوا ہے معترم وزیر داخلہ صاحب نے کہ وہ ان درخواستوں کی تصدیق کیا کریں وہ تو خواہ مخواہ دھر لئے گئے = ان کا کیا بنے گا = اسکی آپ نے سزا بڑھا دینی ہے =

Mr. Abdul Qaiyum Khan : On Point of Order.

ان کی سزا نہیں بڑھائی گئی = اٹیسٹوز کے لئے وہی ہے = یہ اپلیکینٹس کے لئے ہے =

It does not apply to attestors.

میں نے ان کو سبھانے کی کوشش کی ہے = اس میں بھی ہم نے وضاحت کی ہے =

“Any person who attests or verifies any Statement or information made or furnished for the purpose of this Act which he knows or has reason to believe to be false in any material particular.....”

There we use very careful words :

“or which he does not believe to be true.....”

ٹو ایٹسٹرز جو ہیں ایم این اے اور ایم پی اے، ان کی سزا میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے = وہ فارنسرز جو درخواستیں دیتے ہیں ان کی سزا جو تھی ۱۰ دن یا ۱۵، ان کو بھی اس کے برابر لا رہے ہیں =

خواجہ محمد صغدر : بہر حال وہ تو جرم ہے ویسے بھی اور عام حالات میں جرم ہونا بھی چاہیئے = لیکن اگر ایٹسٹر کے بغیر یہ درخواست لینے کا انتظام کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ملک کے نمائندے اور عوام کے نمائندے اس قسم کی ہراسنٹ سے بچ سکیں =

جناب والا! دوسری بات جس کی طرف میں معترم وزیر داخلہ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ ہمارے ملک میں گھس آتے ہیں اور نہ صرف گھس آتے ہیں یہاں سے جعلی شناختی کارڈ حاصل کر کے اس ملک کا شہری بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ معترم وزیر داخلہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ ہماری سرحدیں اس قدر غیر محفوظ ہیں کہ لوگ نہ صرف گھس آتے ہیں بلکہ یہاں کا شہری بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ باوجود اس بات کے ہمارے ہاں مختلف قسم کی فورسز، ایف، آئی، اے - ایف، ایس، ایف اور خبر نہیں کیا کیا قسم کی فورسز بنی ہوئی ہیں اور ان کی تنخواہوں کا بوجھ خزانہ عامرہ پر پڑ رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ غیر ملکی ہمارے ملک میں گھسے بیٹھے ہیں۔ ان کا پتہ نہیں چلتا یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور خصوصیت سے معترم وزیر داخلہ اس کے ذمہ دار ہیں ایسے لوگوں کا وہ کیا انتظام کرتے ہیں جو اس طرح گھس آتے ہیں۔ ان کو روکتے کیوں نہیں؟

دوسری ایک اور تعجب خیز بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جناب والا! ابھی حال ہی میں سندھ اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے معترم وزیر کٹپہر صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جو ۱۲ سال پہلے یہاں سے چلے گئے تھے وہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور معترم وزیر داخلہ پتہ نہیں کن لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید وہ وہی لوگ ہیں جن کو وزیر داخلہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں جن کو وزیر کٹپہر صاحب خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ معترم وزیر داخلہ اور معترم صوبائی وزیر کٹپہر صاحب کے بیانات میں تضاد ہے۔ ان کے قول اور فعل میں تضاد موجود ہے۔ معترم وزیر داخلہ ایک بیان دے رہے ہیں اور انہی کی پارٹی کے ایک صوبائی وزیر کچھ اور ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو ویلنگم کرنا ہے تو سیدھی طرح سب کو بلا لیجیئے جو ۱۹۲۶ء اور ۱۹۲۷ء اور ۱۹۶۵ء میں گئے تھے ان سب کو بلا لیجیئے یہ تو ارباب حکومت کی صوابدید پر منحصر ہے، یہ ذمہ داری ان کی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو شخص اس ملک سے بھاگ گیا ہو وہ اس ملک سے محبت نہیں کر سکتا۔ اسی لئے اس کو کسی صورت میں واپس آنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیئے اگر وہ اس ملک سے محبت کرتے ہوتے تو وہ بھی یہاں ہمارے ساتھ مصائب جمیلے جو ہمیں بار بار ہندوستان کے حملہ کی صورت میں برداشت کرنے پڑے ہیں ۱۹۶۵ء اور ۱۹۷۱ء کی جنگوں میں ہمیں برداشت کرنے پڑے ہیں۔ اگر وہ مصائب ہمارے ساتھ برداشت کرنے کو تیار نہیں تو وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے آدمی کو قطعاً اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس قسم کے غداروں کو واپس بلائیں اور خوش آمدید کہیں۔ تو میں ان بدعنوانیوں کی طرف معترم وزیر صاحب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ معترم وزیر داخلہ صاحب سے امید ہے کہ وہ ان کا نوٹس لیں گے اور جو غیر ملکی ہمارے ملک میں گھسے بیٹھے ہیں ان کا سدباب کریں گے۔ جن لوگوں کے متعلق کچھ لوگ خوش آمدید کہنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے متعلق بھی پالیسی کی وضاحت کریں گے تاکہ اس

[Khawaja Mohammad Safdar]

ملک کے عوام کو کسی قسم کی تشویش نہیں ہونی چاہیے - اور وہ خطرات سے جو ان کے سامنے ہیں، ان سے نجات حاصل کر سکیں -

Mr. Deputy Chairman : Mr. Kamran Khan wants to speak. Let him speak first then you wind up.

Anyother person from this side? No ?

Yes, Mr. Kamran Khan.

Mr. Kamran Khan : Sir, when this law was enacted first, the country was told of the numerous benefits that will result from it. Now, Sir, it is for a number of years, about three years or so, and the purposes stated by the Government, for which this law was enacted, have not been served. The purpose was that it will become easier for the citizens, for the nationals of Pakistan to identify themselves.

Now, Sir, if a person, even today, applies for a job or admission in the educational institution, he is to produce domicile certificate. That means, the Identity Card is not good enough outhewise Domicile Certificate would have not been required from the people. Another benefit, Sir, that was to come out was that it would be easier for the people to obtain passports, it will be given in evidence in the courts. But, Sir, these are not necessary things. Everybody does not want passport, everybody does not want to appear before the court and give evidence. To my mind, Sir, this facility should have been available to the citizens, but it should have been left. voluntary. It should have been left optional and not compulsory.

Now, another point that was given out was that it would curb the illegal immigrants, but for that, Sir, we have got Immigration Laws. By all means strengthen those laws, increase the punishment under this Law, and as the honourable Minister for Interior has pointed out that cases have come to his notice that foreigners have succeeded in getting Identity Cards, the positions shows that the purpose of this Act has not been achieved.

Sir, during the debate in the National Assembly it was stated by the honourable Minister that 50 percent of the rural population and 80 percent of the urban population have been registered or have obtained Identity Cards. So, Sir, if you enhance the punishment, that means straightaway 50 percent of the rural population becomes guilty of offences enumerated under this Act. I would really request the honourable Minister not to stand on false motions of prestige and move for the repeal of this Act and scrap it.

Thank you, Sir.

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqi : Mr. Chairman, Sir.

Mr. Abdul Qaiyum Khan : Sir, I would like to speak first.

Mr. Deputy Chairman : Maulana Noorani Sahib also wants to participate in the debate. Let him speak and after that you can wind up.

جناب عبدالقیوم خان : جناب والا ! میں وائٹڈ اپ کرنا چاہتا ہوں ۔

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : کیا آپ یہاں بھی دفعہ ۱۲۲ لگانا چاہتے ہیں ؟
باہر تو ہر جگہ یہ لاگو ہے ۔

جناب عبدالقیوم خان : میں نے اخبار میں آپ کی تصویر دیکھی ہے کہ آپ ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں ۔

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : یہ تو اس بات کا ثبوت ہے ۔ کہ ہماری عوام میں بہت مقبولیت ہے ۔ تو میں جناب وزیر داخلہ کی خدمت میں آپ کی وساطت سے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو اس بل کے تحت رجسٹرار جنرل، جوائنٹ رجسٹرار جنرل، ڈپٹی رجسٹرار جنرل اور اسسٹنٹ رجسٹرار جنرل کا نام بدل کر بالترتیب ڈائریکٹر جنرل، ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر رکھا گیا ہے اور دوسری ترمیم کا تعلق سزاؤں سے ہے اور بل کے تحت فارنر کی سزاؤں میں تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے ۔

جناب والا ! جہانتک نشینل رجسٹریشن کا تعلق ہے اس ادارے نے سارے ملک میں بدعنوانی کو فروغ دیا ہے اور چونکہ لوگوں پر پابندیاں ہیں کہ کسی شخص کو اس وقت تک ملازمت نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ شناختی کارڈ نہ حاصل کرے اور کسی شخص کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائیگی جب تک وہ نشینل رجسٹریشن کارڈ حاصل نہ کرے اور پاسپورٹ کے حصول میں بھی شناختی کارڈ بڑی اہمیت رکھتا ہے بیرون ممالک سفر کیلئے بھی شناختی کارڈ بڑی اہمیت رکھتا ہے اور ملازمت کے حصول میں بھی شناختی کارڈ بڑی اہمیت رکھتا ہے تو ہونا یہ چاہیئے تھا کہ اس کے فارم آسانی کے ساتھ ملتے اور ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ جیسے ہی کوئی شخص درخواست دیتا تو اس کو فوراً ایک مقررہ مدت کے اندر شناختی کارڈ جاری کر دیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے ۔ جناب والا ! دفتر ہی کا ذمے دار عملہ فارم لیکر باہر کھڑا ہوتا ہے اور وہ عناصر، دلال، جو باہر کھڑے ہوتے ہیں ان سے ملی بھگت کر کے ان فارموں کو پانچ روپے اور دس روپے میں فروخت کرتے ہیں حالانکہ ان فارموں کو بغیر کسی قیمت کے مہیا ہونا چاہیئے تھا ۔ جناب والا ! آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بیرونی ممالک جانے والے لوگوں کی بھر مار ہے اور وہ زیادہ تر غریب دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک تاریخ دی جاتی ہے اس پر وہاں وہ پہنچتے ہیں لیکن کارڈ نہیں ملتا پھر دوسری پر پہنچتے ہیں لیکن پھر کارڈ نہیں ملتا اس طرح تین چار مرتبہ اس رجسٹریشن کے سلسلے میں ان کو جانا پڑتا ہے اور وہ ان کو دستیاب نہیں ہوتا ۔ اسی طرح جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کو کسی ضروری کام کیلئے شناختی کارڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان کو کارڈ نہیں ملتا ۔ متعدد بار انکو تاریخیں دیجاتی ہیں اور وہ دفتر سے آتے ہیں، لائن لگاتے ہیں تو اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا کارڈ تیار نہیں ہے ۔ اس طرح ملازمت پیشہ

[Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqi]

افراد جو ہیں وہ چار پانچ مرتبہ دفتر سے چھٹی لیکر حاضری دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں شناختی کارڈ نہیں ملتا اور یہ انتظام وزارت داخلہ کا ہے۔ اس نے لوگوں کو اتنا تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے اور لوگ اس سلسلے میں اتنے کرب میں مبتلا ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ متترم وزیر داخلہ کو اس کی اطلاعات پہنچی ہوں لیکن میں نے مناسب سبھا کہ آپ کی وساطت سے عزت مآب وزیر داخلہ کے علم میں یہ بات لاول کہ عوام کس تکلیف میں مبتلا ہیں اور شناختی کارڈ جاری کرنے والے کس طرح رشوتوں سے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔

یہی حال پاسپورٹ آفس کا ہے خیر پاسپورٹ آفس اس وقت زیر بحث نہیں ہے لیکن وہاں بھی یہی حال ہے ایم-این-اے اور سینیٹرز جو عین انکے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے آپ میری مثال لے لیجئے مجھے کہا گیا ہے کہ آپ پندرہ دن کے بعد اپنا پاسپورٹ لے لیجئے۔ اسکے بعد پھر پندرہ دن کے لئے کہا گیا کہ آپ پندرہ دن کے بعد لے لیں کیونکہ کاپیاں نہیں ہیں۔ اس طرح دو مہینے بعد مجھے یہاں اسلام آباد کے ڈائریکٹوریٹ سے پاسپورٹ جاری کیا گیا تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ذمہ دار افراد کے کام میں تاخیر ہو جاتی ہے تو دوسرے ہزاروں لوگ جو تشریف لاتے ہیں انکو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اور عام طور پر بہانہ یہ کیا جاتا ہے کہ شناختی کارڈ ختم ہو گئے ہیں اور تیار ہو رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں اور اب جا رہے ہیں اور اسی طرح دو مہینے لگا دیئے جاتے ہیں اور اب تو بڑی بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ یہ قائد اعظم کا سال ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو ساتھ لائے ہو تو کارڈ ابھی حاضر ہے۔ اس سے ان کا مفہوم ہوتا ہے کہ سو کا نوٹ! یعنی کس بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ بیوروکریسی کے افسر رشوتیں اور چور بازاریاں کر رہے ہیں اور عزت مآب وزیر داخلہ کے علم میں یہ بات نہیں آتی۔

دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رشوت کے ذریعے ہندوستان کے لوگ بھی کارڈ حاصل کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی خاص ضابطہ نہیں دیا گیا میں آپکی خدمت میں اسلامیہ جمہوریہ کا شمارہ پیش کرتا ہوں اسکے اندر ایک فوٹو سٹیٹ کاپی شائع ہوئی ہے اور یہ پیپلز پارٹی سکھر کا ایک مشہور اخبار ہے ”نجات“ میں آپ کی اجازت سے یہ کوٹیشن پڑھتا ہوں پھر یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، پیپلز پارٹی کا ترجمان روزنامہ نجات سکھر یہ ۳ اکتوبر کے شمارے میں ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سندھ میں اقلیتی فرقے کا ایک منظم گروہ بھارتی ہندوؤں سے بھاری رقمیں لیکر جعلی شناختی کارڈ بنا کر انہیں پاکستان میں آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اخبار نے مزید لکھا ہے کہ اس گروہ کا ایک رکن ضلع جیکب آباد میں رجسٹریشن آفس میں اسٹیٹسٹیکل آفیسر ہے

اس گروہ کے نام یہ ہیں مدراس مدراری لال، لال شہزاد کوٹ، اور روپ چند یہ گروہ منظم طریقے سے اس کام کو کر رہا ہے اور ایک خط جو اس نے وہاں کے ہندوؤں کو بھیجا ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ ایک کارڈ کی قیمت پانچ ہزار روپیہ ہوتی ہے یعنی کارڈ کی قیمت پانچ ہزار روپیہ ہے اور وہ ہندوؤں کو ایشو کیے جا رہے ہیں اور اس شناختی کارڈ کی بنیاد پر وہ پاکستانی شہری بنتے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ وزارت داخلہ کے تحت رجسٹریشن کے آفس میں ہو رہا ہے یہ دھاندلیاں اور یہ رشوت ستانی اور چور بازاریاں ہو رہی ہیں۔ اسلئے میں سمجھتا ہوں کہ عزت مآب وزیر داخلہ کیلئے بہتر یہی ہے کہ وہ پاکستانی عوام کی مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سیاہ قانون کو واپس لیں جس کے ذریعے رجسٹریشن کی جا رہی ہے اور اب تو پولیس بھی رات کو چلتے ہوئے پوچھتی ہے کہ شناختی کارڈ ہے اور اگر کہا کہ نہیں ہے تو چلو تھانے ”اب یہ ایک اور مصیبت بن گئی ہے اور وہ بھی رشوت ستانی کا ذریعہ ہے۔ اسلئے اس بل کو واپس لیں بلکہ اس پورے رجسٹریشن ایکٹ کو واپس لیا جائے کیونکہ یہ ناکام ہو چکا ہے اور اس نے رشوت ستانی اور چور بازاریاں کا دروازہ کھول دیا ہے اور پاکستان کے کروڑوں عوام اس وقت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اس لئے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔

Mr. Abdul Qaiyum Khan : Sir, I am very happy that all these allegations have been made, and I hope that I will be able to make it quite clear that there is no foundation in the allegations.

First of all I would refer to the point raised by the learned Senator Maulana Noorani that identity cards are being obtained by Indian nationals. I want to make it quite clear that no Indian national can enter Pakistan without an Indian Passport. Once he comes on an Indian Passport he is only for a limited time, and then he has to quit. Even his grandfather cannot obtain an identity card. He cannot at all get an identity card.

(Interruptions)

Mr. Abdul Qaiyum Khan : Please listen. We have now got complete rules in respect of Indian nationals. We have given very limited powers to our Embassy in New Delhi to issue passports to Indian nationals.

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqi : Visas not passports.

Mr. Abdul Qaiyum Khan : Unless they have a passport they cannot enter Pakistan. Therefore, every case has to come to the Interior Ministry where it is scrutinised by us and the agencies under us, before we allow them to come. Therefore, supposing a man takes five thousand rupees from somebody and prepares an identity card, that Indian national cannot come without a passport.

خواجہ محمد صفدر : میں معذرت چاہتا ہوں کہ وزیر داخلہ نے اپنی پہلی تقریر میں فرمایا تھا کہ غیر ملکی آ رہے ہیں۔

جناب عبدالقیوم خان : میں آپ کے پوائنٹ کو بھی میٹ کرتا ہوں -

جناب ڈپٹی چیئرمین : اس وقت وہ انڈین نیشنل کو ڈسکس کر رہے ہیں -

Mr. Abdul Qaiyum Khan : I am dealing with the points one by one. No Indian national can come without permission. He comes for a limited stay. The other day there was the case of an Indian national he was a muslim who wanted to stay in Karachi and go for Hajj. My Ministry gave him only two days to stay. When the honourable members come for extension in the stay of some Indian national, we do oblige them and we do give them extension, but in the end we send them back. Therefore, that a man in Sukkur may have made money by befooling somebody, but the purpose cannot be served.

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqi : He is an employee of the Registration Office.

Mr. Abdul Qaiyum Khan : But the purpose cannot be served, because a man cannot enter without a passport. Moreover, it is very difficult for the Indian nationals to come, because even our Embassy cannot give them visas without reference to us.

Then, the honourable member has said that when people are going abroad they have to get identity cards, and there is a lot of delay. I can assure him that I have visited every Registration Office, Passport Office myself as a Minister. I have gone there. I have talked to the people, who are lining up in queues, and I have listened to their individual complaints.

Whoever is going abroad if he deposits 400 rupees in the bank that very day he gets a passport. As regards identity cards there is a special cell in the Registration Offices.

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqi : Question.

Mr. Abdul Qaiyum Khan : I have seen to it myself that a man who is going abroad must get an identity card immediately on his application. In other cases there may be delay, there may be enquiries, because they are over-worked, but not in the case of a man who is going abroad. I may inform the honourable Maulana how could have 650,000 people left Pakistan last year, so many passports were issued, if there were such delays?

Then, it was said that there was a lot of delay in getting cards. The honourable Senator will know that we started from scratch, and we had to set up an Organisation. Now, we have opened counters in the rural areas, in Tehsils. There is no difficulty for the rural population in getting cards. There are a number of counters in the villages in Tehsils. There are three photographers in each district who go with the mobile teams, take photographs of the villagers, receive their applications and give them identity cards, and in rural areas identity cards are being issued in a big way. We have almost finished the towns. We have moved into the rural areas, and I can tell you that 3/4th of the population has been covered which is a remarkable achievement though I do not expect that any body would say a word that we have done something because things started from scratch. In the towns we have no difficulty. We have even set up automatic machines where if Maulana Sahib will go and sit there in threeminutes he will get four beautiful pictures of himself.

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqi : Pictures with you.

Mr. Abdul Qaiyum Khan : These machines have been set up in Karachi, Lahore, Rawalpindi and in Peshawar. In the rural areas we sent three photographers. We have got dark rooms, and we charge only one rupee for two photographs. If the villagers make some mistakes, then the mistakes are corrected by the staff. I have given them personal directions that ordinary mistakes should be ignored.

Now, I can give him two instances where I caught these people. I went and paid a surprise visit to the Registration office, Kohat. It was about 10 O'Clock. The officers were enjoying themselves inside a beautiful building, and there were hundreds of people standing outside. So, I kicked the door, opened it and told them : "You are servants of these people. What are you doing, and why should these people stand there in the sun? I suspended all of them. They were punished and most of them were scattered who were not punished. In Karachi also I did that. I went to Karachi, huge office doors barred and officers were sitting in a great style. Again, I had the door kicked open. I went in and told them "Why are these people standing there? Why don't you issue them Cards?" He said, Sir, they should go to the district where they were born and bring a letter from the Deputy Commissioner and then we will issue them cards. I said : "Can these poor people who are in Karachi go to their districts, in Sialkot, Swat, Khuzdar and those places? The Law says that any national of Pakistan who is anywhere can get an identity card and I said by tomorrow if you don't issue identity cards to these people, and if you don't keep these doors open you will be posted to Wana in Waziristan, so that you should come to your senses." I have gone to these offices myself and I go to the Passport Offices.

Now, as regards corruption, we have announced in the Press, and in the Radio that the "darkhwasht" is free. If there are some fools who pay money, and don't complain what can anybody do, and I ask my honourable friend if any case comes to his notice and he writes us, we will have that officer arrested. The FIA is there, and if he cares to read the FIA monthly reports, which are published in the Press, he will be surprised to know the number of people in the Registration Offices and Passport Offices, who are convicted and who are dismissed from service. There are teams of officers always on the move inspecting these Offices. There is hardly 15 days interval between one officer going there and another officer going there. I myself never inform them that I am coming, but I do pay visits, because I travel a lot in the country, and I pay surprise checks.

Now, my learned friend, Khawaja Mohammad Safdar has spoken about Rajasthan. As far as I remember, after the war in that area, a number of minority people had gone over, and then there was an agreement between India and Pakistan that the people who had gone over will come back. We had sent a team including one elected MNA to go and find out whether those who wanted to come back were really the persons who had left, and after proper checking only those who had left were allowed to come. We are not allowing anybody else to come in. You know we had passed a law that nobody can enter Pakistan without documents. If anybody enters Pakistan without a document, he is caught and tried. Even from the other side, from the side of Afghanistan, if somebody comes with a document, he is allowed to come in, but if he has no document, then he is turned back.

Now, the danger for which this amendment is being brought is this that foreigners do come to Pakistan. They may have a valid document, a passport, yet they may go and bribe somebody, or through their influence take identity

[Mr. Abdul Qaiyum Khan]

cards. They may have valid documents and may have entered Pakistan on valid documents. Now how are we to check them? How are we to punish those persons? So, this has become very necessary, because a man may have come on a valid document as a foreigner, and then tried to make himself a Pakistan citizen. Now, I want to dispel one impression from the minds of the honourable members of this House that domicile has nothing to do with identity cards. As I have said the Cabinet has taken a decision and this is the Law that you can't force a man who is sitting in Karachi, whether he comes from Sialkot or whether he comes from Khuzdar or Swat that he should go back to the place where he was born. He has got the right to get the identity card where he is and it has been made amply clear to them that they have to give them the identity cards. As regards our Tribal people, Sir, we have made it easier for them their application for identity cards, if it is counter-signed by the Political Agent; they get the identity cards as a matter of right. So there is no difficulty about that. Now, some people think, and in Sind there was a hesitancy to give identity cards because they think that the identity cards will mean domicile. But it has nothing to do with domicile.

Now, on the question of domicile also, I think, the learned honourable Member from Swat spoke. Sir, what are we to do in the Provincial Services? The Provinces are autonomous. They insist that the man must be domiciled in the Province, and only those persons who have the domicile are allowed to take up service in the Province. If the Provincial Governments so insist on domicile for employing people in Provincial Services, we cannot interfere there.

As regards the Centre—the Federal Services the House is well aware that 10 per cent is reserved for merit and 90 per cent is divided between the different Provinces of Pakistan directly on population basis. I assure them that in the Interior Ministry there is a distinct and clear order that if any appointment is made in violation of this and any injustice is done to any Province, I will come down with a heavy hand on that. Sir, I have not received any complaint. Whatever is the share of Punjab or Sind, Urban Sind or Rural Sind we take great care. But even in the Federal Services we have quota for Punjab, quota for NWFP, quota for Northern Regions and for Azad Kashmir, and quota for Baluchistan, and, therefore, domicile is required. Personally, I am not in favour of domicile. But then how are we to function? Provinces insist on a domicile certificate before they employ a man. The Federal Government in order to do justice is to make sure that the man belongs to that Province.

Therefore, as regards the apprehension for which it has been said that this law should be completely repealed; how can we repeal the law. This is a very good law. Identity cards are a necessity. They prove to be very useful at the time of the voting also, and if a person has got an identity card with a photograph on it, then nobody will be able to challenge his identity, and the voting will run smoothly.

Khawaja Mohammad Safdar : Make it compulsory for election purposes.

Mr. Abdul Qaiyum Khan : No, no, it is not compulsory. It can be made compulsory. I do not know the law. When one is challenged, he can show his identity card.

Now, the trouble is with regard to the words, because of the speeches of my learned friend, Mulana Shah Ahmad Noorani Sahib

کہ مستورات کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ پاسپورٹ پر تصویر لگائیں = تو پھر ہم کیا کریں جناب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب نے حکم دیا ہے کہ جب تک پاسپورٹ پر کسی عورت کی تصویر نہیں ہوگی وہ عورت سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکیگی تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ، چون کہ از کعبہ بر خیزد اب ان کو آپ جا کر سمجھائیے =

I think, they are very right, because they have justified. There are a lot of people who take women there, and sell them. They would perform Hajj, sell them, make money, and they would come back, and then again, they would try to go.

ہمیں تو مدینے کی یاد تڑپا رہی ہے ہمیں پھر جانے دیجئے تو پھر اس کو وہاں بھیج دیا = تو سعودی عرب نے کہا کہ تصویر لگاؤ =

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : کاروبار ہو رہا ہے =

جناب عبدالقیوم خان : کاروبار ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں =

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : اور آپکے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے ہوتا ہے یہ کاروبار =

جناب عبدالقیوم خان : ہم تو نہیں کرتے یہ کاروبار = وہ تو وہاں ہوتا ہے ہم تو اس کے برخلاف ہیں =

Maulana knows more about it, because he has got relatives there, his in laws are there.

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : خواتین کے متعلق مجھے معلومات ہیں اور مردوں کے متعلق ان کو معلومات ہیں =

جناب عبدالقیوم خان : کیوں مردوں کے متعلق کیوں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ لوگ وہاں عورتیں بیچتے رہے ہیں؟

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : یہ تو آپ نے فرمایا =

جناب عبدالقیوم خان : آپ کو معلوم ہے =

Therefore, the said Government insists, Sir, that women's passport must have a photograph. Similarly, if women also have their identity card, then there will be no difficulty in ladies voting. Therefore, it is a very useful thing. You do need it. I do not know if there is any other objection.

Sir, we have appointed officers who go round and check. We have also got Inspectors. We are computerising the whole system, so that we could take action when any case of corruption is brought to our notice. I assure the honourable members that we will take speedy action.

[Mr. Abdul Qaiyum Khan]

With these words, Sir, I have tried to satisfy them. I hope I have satisfied them. It is a non-contraversial Bill, and I commend it to the House with the request that it may be passed.

Mr. Deputy Chairman : Now, I put the question.

The question before the House is :

That the Bill further to amend the National Registration Act, 1973. [The National Registration (Amendment) Bill, 1976], as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once."

Mr. Deputy Chairman : The motion is adopted.

Now, we take up the Bill clause by clause. Is there any amendment?

(No reply)

Mr. Deputy Chairman : Well, there are two clauses. I put the two clauses together.

Now, the question before the House is :

"That Clauses 2 and 3 form part of the Bill".

(The motion was adopted)

Mr. Deputy Chairman : Clauses 2 and 3 form part of the Bill.

Now, the question before the House is :

"That Short Title, Preamble and clause 1 form part of the Bill".

(The motion was adopted)

Mr. Deputy Chairman : Short Title, Preamble and Clause 1 form part of the Bill. Next.

Mr. Abdul Qaiyum Khan : Sir, I beg to move :

"That the Bill further to amend the National Registration Act, 1973 [The National Registration (Amendment) Bill, 1976] be passed."

Mr. Deputy Chairman : The motion moved is :

"That the Bill further to amend the National Registration Act, 1973 [The National Registration (Amendment) Bill, 1976] be passed."

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqi : Opposed.

Mr. Deputy Chairman : Opposed ! Any speeches in the third reading?

جناب عبدالقیوم خان : پھر اٹھے آپ !

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : جناب چیئرمین ! آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وزیر داخلہ صاحب اٹھنے پر بھی پابندی لگانا چاہتے ہیں -

جناب ڈپٹی چیئرمین : اس وقت اٹھنے پر - ویسے اٹھنے پر نہیں -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : بغیر آپ کی اجازت کے اٹھوں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تو آپ کی اجازت سے اٹھا ہوں - تو جناب والا ! میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محترم وزیر داخلہ صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا اپنی جگہ پر وہ ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو اور جیسا کہ انہوں نے مثال دی اور یہ فرمایا کہ میں خود کو ہاٹ گیا اور یہاں گیا، وہاں گیا اور میں نے دیکھا کہ افسران چائے پی رہے تھے اور باہر لائن لگی ہوئی تھی - اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اسی طرح سے کراچی میں، مختصر سے، چھوٹے چھوٹے اور معمولی سپانے بنا کر لوگوں کو ریفریوز کرتے ہیں اور جب لوگ اپنی مجبوری کی وجہ سے تقاضہ کرتے ہیں تو پھر ان سے رشوت لیتے ہیں - یہ ہو رہا ہے - اور خود محترم وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے یہ پابندی لگائی کہ ڈی سی آفس جاو اور وہاں سے لے کر آؤ - تو ظاہر ہے کہ اب آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ یہ کتنا طویل عمل ہے کہ ایک شخص رجسٹریشن آفس کو تلاش کرتا ہوا کراچی پہنچے اور پھر وہ ڈی سی آفس کو تلاش کرتا ہوا پہنچے - وہ ایک مزدور آدمی ہے وہ کہیں دور دراز سے روزگار کی تلاش میں آیا ہے - تو اگر کہیں اس کو روزگار مل جاتا ہے - تو وہ کہتے ہیں کہ رجسٹریشن کارڈ چاہیئے - آئی ڈینٹٹی کارڈ چاہیئے - اب جب وہ وہاں جائے - اس کے بعد ڈی سی آفس جائے اور اس طرح سے تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے -

میرے عرض کرنے کا اصل مقصد یہ ہے - نیشنل رجسٹریشن ایکٹ کے ذریعے سے پورے ملک میں رشوت کا بازار گرم ہو گیا ہے - افسران جو ہیں - بیوروکریسی جو ہے اس کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ ہر وقت وزیر داخلہ صاحب ہر جگہ پر نہیں پہنچ سکتے - ابھی انہوں نے خود مثال دی کہ میں فلاں جگہ گیا - ٹھیک ہے وہ کوہاٹ رجسٹریشن آفس تشریف لے گئے تھے - لیکن بیوروکریسی جو ہے - اس کا جو رویہ ہے - اس کا جو طریق کار ہے - اس سے اس نے جس طرح سے لوٹ کھسوٹ مچا رکھی ہے - وہ آپ خود جانتے ہیں اور انہوں نے خود فرمایا ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو ڈسٹس بھی کیا ہے - ڈسٹس کی جو مثال انہوں نے دی ہے - وہ کراچی میں انہوں نے چند لوگوں کو ڈسٹس کیا ہے - تو اس کی وجہ صرف یہ ہے افسران کو پوری طرح حصہ نہیں ملا ہوگا - نیچے والے بیچارے ڈسٹس ہو گئے - یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو اور وہ اصل وجہ سے ڈسٹس ہوئے ہوں -

جناب ڈپٹی چیئرمین : اینٹی کرپشن لاز پر بحث نہیں ہو رہی ہے -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : وہ خان صاحب نے خود فرمایا تھا کہ میں نے کراچی میں بعض لوگوں کو ڈسس کیا ہے - تو میں ان کے ارشاد کا حوالہ دے رہا تھا - میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی جیسا کہ میں نے اس رسالے کو پڑھکر مثال دی اور اس میں وہ خط شائع ہوا - وزیر داخلہ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے رجسٹریشن کا یہ طریق کار ختم کر دیا ہے صحیح طریقے سے جانچ پڑتال ہو سکے رجسٹریشن آفس میں یہ انہوں نے نہیں فرمایا ایک باب یہ تھی کہ وہ کیا طریق کار ہے - جس کی بناء پر وہ چیکنگ کر سکیں کہ وہ فارنر ہے یا نہیں ہے - میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اس کا کوئی طریق کار نہیں ہے - اس لئے کہ اگر ہوتا تو وہ ارشاد فرماتے -

جناب عبدالقیوم خان : طریق کار ہے -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : لیکن اس کی وضاحت انہوں نے نہیں فرمائی -

جناب عبدالقیوم خان : میں ابھی کر دیتا ہوں -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : ٹھیک ہے - تیسری خواندگی میں آپ اس کی وضاحت فرما سکتے ہیں - ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سنیں - اس لئے جناب والا کہ یہ بار بار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شکایت ہو تو مجھے بتایا جائے مجھے بتایا جائے - اب صاحب بار بار کون ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بتائے اور اگر کوئی حاضر ہونا بھی چاہے تو عزت مآب وزیر صاحب عام طور پر دورے پر رہتے ہیں - کبھی پاکستان کے دورے پر رہتے ہیں کبھی بیرون ملک دورے پر رہتے ہیں ان سے ملنا بھی پڑے تو اپائنٹمنٹ کے لئے کم از کم ایک دو مہینے تو لگ جاتے ہیں -

جناب عبدالقیوم خان : میں آپ کی جگہ پر آجاؤں گا -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : اگر آپ یہاں آجائیں تو سبحان اللہ ہم لوگوں کی طرف آجائیں تو سبحان اللہ - بڑا اچھا رہے گا - سیٹ حاضر ہے - خالی بھی ہے -

جناب ڈپٹی چیئرمین : نہیں وہ دعوت کے لئے سب کو ساتھ لے کر آپ کے گھر آئیں گے -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : تو یہ تو میری بڑی عزت افزائی ہوگی - میں بڑا مہنون ہوں گا - تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بیرونی ممالک سے آنے والے، میری مراد ہندوستان سے ہے، اپنے ساتھ پاسپورٹ نہیں لاتے ہیں جب وہ پاکستان میں آتے ہیں - یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاسپورٹ لے کر آئیں -

جناب عبدالقیوم خان : نہیں، اس کے لئے ضروری ہے -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : جناب چیئرمین ! اس ہاؤس کا ریکارڈ شاہد ہے کہ میں نے ایک تحریک التوا پیش کی تھی کہ سندھ میں ہندو ڈاکے ڈال کر جانوروں کو لے گئے ہیں۔ اس پر محترم وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ پوری سرحد جو ہے وہ ۹۰۰ میل لمبی ہے۔ میں کہاں کہاں پر اسکی حفاظت کر سکتا ہوں۔ یہ باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ آپ خود خیال فرمائیں۔ جناب والا ! میں نے وزیر داخلہ کی خدمت میں عرض کیا کہ بلوچستان میں بیشمار لوگ افغانستان سے داخل ہو جاتے ہیں اور رجسٹریشن کارڈ بنوا لیتے ہیں۔ تو اس وقت وزیر داخلہ نے ارشاد فرمایا اور اس وقت جناب چیئرمین موجود تھے انہوں نے بھی اس پر غور فرمایا یہ بھائی ٹھیک ہے، وزیر داخلہ نے فرمایا کہ ہماری بارڈر بلوچستان سے لیکر چترال تک اور کراچی سے لیکر واہگہ تک پھیلا ہوا ہے اس پر کہاں کہاں ہم آدمی بٹھائیں اگر یہ بات ہے تو اس وقت یہ بات جو میں نے اوپر کہی ہے یعنی ہندو جو ہیں وہ اس ملک میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ بغیر پاسپورٹ کے اس ملک میں داخل ہو رہے ہیں وہ بغیر پرمٹ کے، بغیر ڈاکومنٹ کے اس ملک میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں وہ رجسٹریشن آفس سے ان ملازمین سے مل کر جو ہندو ہیں، ان کو پیسے دے کر، شناختی کارڈ بنوا لیتے ہیں اس طرح ملی بھگت کر کے اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے ایسے ملازم لوگ جو رجسٹریشن آفس میں ہیں ایسے لوگوں کو جو ہماری سرحدوں میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاتے ہیں، ان کو رجسٹریشن کارڈ بنوا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ پرمانٹ پاکستان کے شہری ہیں اسی لئے میں نے گزارش کی ہے کہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ اس پر محترم وزیر داخلہ نے فرمایا کہ اس کو جاری رکھنا ضروری ہے لیکن جناب والا ! میں عرض کرتا ہوں کہ اس بل کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ اس سے رشوت کے دروازے کھل جائیں گے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : آپ اور جنرل بل کی واپسی کے متعلق کہہ رہے ہیں یا امنڈنگ بل کی واپسی کے متعلق کہہ رہے ہیں ؟

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : جناب والا ! میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت میں قومی اسمبلی میں تھا جب یہ اور جنرل بل پیش ہوا۔ اس وقت بھی میں نے اور جنرل بل کی مخالفت کی تھی۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : اس وقت اور جنرل بل تو زیر بحث نہیں ہے۔

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : اس وقت تو امنڈنگ بل زیر بحث ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس اور جنرل بل ہی کو واپس لیا جائے۔ یہ دفعات غیر ضروری ہیں اس میں ترامیم غیر ضروری ہیں افسران کی بیوروکریسی اس میں ظلم و ستم کر رہی ہے۔ رجسٹریشن آفس میں جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو چار چار پانچ پانچ دن کی تاریخیں دے کر پریشان کرتے ہیں اور آپ چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں۔ ان متعمر سی گذارشات کے ساتھ میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں۔

Mr. Abdul Qaiyum Khan : Sir, as regards the necessity of this Bill, the honourable Senator must know that there will be no decision in census now. We want to know the exact number of people in Pakistan at any point of time. So, every birth and death has to be registered with this Department and the cards of those who are dead, are cancelled, those who become 18, they get cards. When we have to cover the country in a year's time, we will know the exact number of people in the country. Census figures are never accurate and as we are planning on the economic side in a big way and computerising the things in a year's time, we should know how many people there are in Pakistan? How many schoolsrooms we need? How many teachers we need? How much food we need? How much Dalda we need? What should be our exports? What should be our imports? If we repeal this Bill, we will not know how many people are there in Pakistan, we will not be able to plan economically and the country will be in chaos. I hope my friend does not want that kind of chaos in the country.

Now, as regards hitting the Bill, it means doing away with the census. The census figures were never correct. Some people used to inflate because of 'bradaries', because of regional rivalries, because of this and the other. I know of cases where in one Tehsil the population increased by 20 per cent and in another Tehsil by 400 per cent. So, how can we depend on census. You must have accurate figures. When you form the Government and you run the country without knowing how many people there are, you will make a mess of things, my learned Senator. This has, therefore, become absolutely necessary.

Now, Sir, as regards checking, there are periodical visits prescribed for the Director-General, for the Deputy Director-Generals, to visit these offices. I myself visit every office. I think, there can be no better guarantee that these people are kept in line because of my own visits. In addition to that Joint Secretary, Law, of the Interior visits these offices. He has just returned after visiting offices in Dera Ismail Khan, Peshawar and Sargodha Divisions. Another Joint Secretary of the Law Ministry is always on the move. Then, we have got an officer of the rank of DIG who visits all these offices, scrutinises every doubtful case where a foreigner is involved and he has got his staff. He has got a DSP under him. They are always moving all over Pakistan and they send reports and these reports are read by me. Every report is read by me and every mistake which comes to our notice, is rectified.

I don't say that we are perfect but we are trying to be perfect. We are trying to be less imperfect, and I think that should satisfy my friend. When I have been in the Government and in the Opposition, I have also made so many speeches but, Sir, speeches should also be within reason. You should not say that every form is being sold for 10 rupees, every card is the result of corruption. That is not the case. God knows, 30 million cards have already been issued and there is no question of corruption. I can tell you that in Lahore there used to be one officer and now there are eight counters working there. Similarly, we have got counters all over the country. People do not have to go very far. I think, there has been a great improvement, and if he repeals this Bill, he will not know how many people there are in this country. With this I end my speech.

Mr. Deputy Chairman : Thank you. Now, I put the question.

The question before the House is :

"That the Bill further to amend the National Registration Act, 1973 [The National Registration (Amendment) Bill, 1976], be passed."

(The motion was adopted)

Mr. Deputy Chairman : The Bill is adopted. Next is now No. 6.

چوہدری ممتاز احمد (وزیر مہلکت برائے زرعی انتظام) : اگر آپ اجازت دیں تو اکتھا ہی تیغوں کو موو کر لیں پھر تیغوں پر بحث ہو جائے گی ۔

خواجہ محمد صفدر : نہیں جناب، علیحدہ علیحدہ پیش ہوں گے ۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : میرے خیال میں ان سب کے پرنسپلز تو ایک ہی ہیں جو بحث میں حصہ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں ۔ موو علیحدہ علیحدہ ہوں گے بحث اکتھی ہو سکتی ہے ۔

چوہدری ممتاز احمد : بہت اچھا جناب ۔

THE FLOUR MILLING CONTROL AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 1976

Ch. Mumtaz Ahmad (Minister of State for Agrarian Management) : Sir, I beg to move :

“That the Bill to amend the Flour Milling Control and Development Act, 1976 [The Flour Milling Control and Development (Amendment) Bill, 1976], as reported by the Standing Committee, be taken into consideration.”

Mr. Deputy Chairman The motion moved is:

“That the Bill to amend for Flour Milling Control and Development Act, 1976 [The Flour Milling Control and Development (Amendment) Bill, 1975], as reported by the Standing Committee, be taken into consideration.”

چوہدری ممتاز احمد : اس بل کے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزنز میں کہا گیا ہے :

“The Flour Milling Control and Development Act 1976 (LVII of 1976) was amended by the Flour Milling Control and Development (Amendment) Ordinance, 1976 (XXXVI of 1976) which was promulgated on 14th October, 1976 to provide for exemption from the provisions of section 3 of the Act in respect of establishments which are run for the benefit of any class of any class of persons or for charitable objects.”

جناب والا ! یہ فوجی فاونڈیشن اور پولیس فاونڈیشن جو کہ ایسے معذور فوجیوں اور پولیس والوں کی امداد کیلئے ہے اور جب یہ بل بن گیا تو ان کی ملیں بھی اس بل کے تحت آتی تھیں تو انکو مستثنیٰ کرنے کے لئے یہ ترمیم کی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی وضاحت طلب بات نہیں ہے اور یہ خالص ایک مخصوص کلاس کے لئے ہے اس لئے گورنمنٹ نے یہ بل پیش کیا ہے ۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : اس طرف سے بحث میں کون کون حصہ لے گا اور اصول یہ رہا ہے کہ ایک بل پر بحث ہوگی لیکن یہ چونکہ تینوں بل ایک ہی نوعیت کے ہیں اس لئے جنرل پرنسپل پر بحث کر لیتے ہیں اور بعد میں تینوں کو باؤس کے سامنے پیش کر دیں گے -

خواجہ محمد صفدر : تو اس صورت میں تینوں موشن ایوان کے سامنے آجائے چاہیں -

جناب ڈپٹی چیئرمین : میں نے پرنسپل کہا ہے کہ جنرل بحث کر لیتے ہیں ادھر سے مسعود صاحب آپ بولیں گے -

جناب مسعود احمد خان : خواجہ صاحب کے دلائل کے بعد اگر ضرورت پڑی تو پھر دیکھیں گے -

جناب ڈپٹی چیئرمین : جی مولانا صاحب ؟

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : پہلے خواجہ صاحب -

خواجہ محمد صفدر : جناب چیئرمین ! آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کم و بیش تین ماہ قبل جب آٹا پیسنے والی ملوں کے متعلق اور اسی طرح چادل چھڑنے والی ملوں کے متعلق اور کپاس پیسنے والی ملوں کے متعلق اصل قانون اس ایوان میں پیش ہوا تھا تو میں نے اس ایوان کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ یہ قانون ناقص ہے اور اصولی طور پر بھی میں نے اس کی مخالفت کی تھی ان کے کنٹیکسٹ اور ان قوانین کے مضمرات کی بناء پر میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اور یہ ترمیمی بل پیش کر کے محترم وزیر مملکت نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے۔۔۔

[اس مرحلے پر جناب صدارت کنندہ آفیسر (احمد وحید اختر) کرسی صدارت پر متمکن ہوئے]

خواجہ محمد صفدر : کہ ہمارے اعتراضات درست تھے -

Ch. Mumtaz Ahmad : Question.

خواجہ محمد صفدر : انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ بعض ایسے ادارے جو کسی خاص جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی خاص کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور جو کہ ایک قسم کے مفید ادارے ہیں وہ اس کلاس یا جماعت کی خدمت کر رہے ہیں یا ان کے مفاد کے لئے چل رہے ہیں ان کو ہم مستثنیٰ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اس استثنا اس حد تک ہونا چاہیئے یا اس کا دائرہ وسیع ہونا چاہیئے اس کا ذکر تو میں بعد میں کروں گا البتہ اس وقت میں محترم وزیر مملکت اور محترم اراکین سینٹ کی خدمت میں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایوان کو اور اس ملک کو بتایا گیا تھا کہ آٹا پیسنے والی ملوں

کے سابقہ مالکان چور ہیں ملاوٹ کرتے ہیں چوری کرتے ہیں اور خراب قسم کا آٹا عوام کو مہیا کرتے ہیں منافع خوری کرتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کہا رہے ہیں اور اس قسم کے لوگوں کو اس طرح روپے کے انبار در انبار اکٹھے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس لئے حکومت یہ کارخانے اپنی تحویل میں لے رہی ہے تاکہ بہتر قسم کا آٹا اچھی کوالٹی کا آٹا عوام کو میسر آسکے اور اس طور پر میسر آتا رہے کہ اس میں غریب عوام کو آسانی ہو دقت اور دشواری نہ ہو اور آٹے کے حصول میں دقت نہ ہو اور لوگوں کو کھلی منڈی سے آٹا یا گندم خریدنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔

جناب چیئرمین! میں سمجھتا ہوں کہ ان بلند بانگ دعووں میں سے کوئی ایک بھی دعویٰ پورا نہیں ہوا ہے اور ارباب اقتدار نے جن مقاصد کے لئے ان کے کہنے کے مطابق آٹا پیسنے والی ملوں کو قومیا یا تھا ان میں سے ایک بھی مقصد حاصل نہیں ہوا ہے اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آج جو آٹا راشن ڈپوں کے ذریعے عوام کو مل رہا ہے جو ان قومیاٹی گئی ملوں میں پستا ہے وہ معیار کے اعتبار سے کہیں زیادہ اس آٹے سے ناقص تر ہے جو پرائیویٹ لوگوں کی تحویل میں ان ملوں سے ملتا تھا جب یہ ملیں ان کے قبضہ میں تھیں اور ان کی ملکیت میں تھیں آج آٹے میں ملاوٹ کے سلسلے میں خصوصیت سے پنجاب میں ہاھا کار مچی ہوئی ہے کیونکہ میں دوسرے صوبوں کے حالات سے کم واقف ہوں اور ایسی حال ہی میں چار نومبر کو پنجاب اسمبلی میں میرے محترم دوست اور حزب اختلاف کے ذی وقار رکن سید تابش الہوری نے اس موضوع پر ایک تحریک بائے التواء پیش کی کہ آٹے کا معیار گر گیا ہے اور ناقص آٹا عوام کو مہیا کیا جا رہا ہے محترم ڈاکٹر عبدالغالب سینئر وزیر حکومت پنجاب نے اگرچہ اس تحریک کی مخالفت کی لیکن انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ان کے علم میں بھی کئی ایک شکایتیں آٹے کا معیار گر جانے کے متعلق آئی ہیں اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ انہوں نے احکامات جاری کر دیئے ہیں کہ آٹے کا معیار گرنے نہ پائے اور مجھے معلوم نہیں کہ سینئر وزیر حکومت پنجاب مرکزی حکومت کے کسی محکمہ کو کوئی ہدایت جاری کر سکتے ہیں یا نہیں اور یہ آپ آپس میں فیصلہ کر لیں لیکن جہاں تک میں دستوری قوانین کو جانتا ہوں وہ یہ ہیں کہ سفیر وزیر یا چیف منسٹر کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ مرکزی حکومت کے کسی محکمہ کو ہدایت جاری کرے۔

جناب چیئرمین! ہو سکتا ہے کہ محترم وزیر مہلکت یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ شکایت غلط ہے تو چھوڑیئے سابقہ شکایات کو میں ان کی توجہ آج ہی کے اخبار کی طرف دلاتا ہوں نوائے وقت میں دو مقامات پر آٹے کا ذکر ہوا ہے ناقص آٹے کا ذکر ہوا ہے ایک تو وہ ایڈیٹوریل نوٹ ہے جس سے ظاہر ہے کہ یہ ایک اہم بات ہوگی جس پر ایک موقر روزنامے کو ایڈیٹوریل نوٹ لکھنا پڑا اور اندر یہ شکایت کی گئی ہے کہ ناقص آٹا مل رہا ہے اور دوسری شکایت اندر کے صفحہ میں ان ملوں کے مزدوروں کی ہے جو ان ملوں میں کام کرتے ہیں اور جو واقف حال ہیں۔

[Khawaja Mohammad Safdar]

”پنجاب کے آٹے کے کارخانوں کے نرخ دوسرے صوبوں کے برابر کئے جائیں - فلور ملز ورکرز یونین کا مطالبہ -“ اس میں دوسرے کالم میں لکھا ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں - ”محکمہ خوراک کی طرف سے فلور ملوں کو سپلائی کی جانے والی گندم انتہائی ناقص ہے براہ راست اثر آٹے کی کوالٹی پر پڑ رہا ہے“ یہ وہ لوگ ہیں جو گوداموں سے گندم نکال کر ملوں میں بھیجتے ہیں - اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا بھیج رہے ہیں ان لوگوں نے اور بھی کچھ مطالبات کئے ہیں - یہ پنجاب بھر کی ملوں کی ورکرز کی یونین ہے - یہ محنت کشوں کی یونین ہے یہ مزدوروں کی یونین ہے - یہ بڑے آدمیوں کا جلسہ نہیں تھا کہ جو اپنی کسی خاص غرض کے لئے کوئی بات کر رہے تھے - وہ واقف حال لوگ تھے - اندرون خانہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں اور گھر کے بھیدی ہیں - انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ محکمہ خوراک کی طرف سے جو گندم مہیا کی جاتی ہے وہ ناقص ہے - جناب چیئرمین یہ شکایت بھی پرانی ہے میں جانتا ہوں - محکمہ خوراک درست طور پر، اپنی گندم گوداموں میں محفوظ نہیں کرتا - اسے کیڑا لگ جاتا ہے بارش ہو تو چھت کے ٹپکنے سے یا پانی گوداموں میں گھس جانے سے گندم بھیگ جاتی ہے اس میں سرانڈ پیدا ہو جاتی ہے - اس میں بربد پیدا ہو جاتی ہے - میرے علم میں نہیں ہے، محترم وزیر صاحب کے علم میں ہو تو وہ ارشاد فرمائیں -

جناب صدارت کنندہ آفیسر : میں قطع کلام تو نہیں ہونا چاہتا لیکن آپ کی گفتگو امڈنگ بل سے کچھ زیادہ متعلق نہیں ہے - اس کی اپنی جگہ یقیناً اہمیت ہوگی - اس کے لئے تعاریف بھی آسکتی ہیں، قرارداد بھی آسکتی ہے، میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ گفتگو بل کے ساتھ ہو -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : جناب چیئرمین ! معاف کیجئے گا میرے خیال میں فرسٹ ریڈنگ ہو رہی ہے -

جناب صدارت کنندہ آفیسر : مجھے اس کا احساس ہے اسی لئے میں نے یہ بات پہلے نہیں کہی - پہلی خواندگی میں اس کا سکوپ ہوتا ہے -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : میں اپنی معلومات کے لئے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ترمیمی بل پر عام بحث ہو رہی ہو تو اس پر جنرل بحث ہو سکتی ہے ؟

جناب صدارت کنندہ آفیسر : میں نے کہا ہے کہ ہو سکتی ہے اور وہ کس حد تک ہو سکتی ہے ؟ اس کا تعین خواجہ صاحب خود کر لیں گے -

خواجہ محمد صفدر : میں اپنی بات مختصر کئے لیتا ہوں ایسی کون سی بات ہے - جب پریزیڈنٹ آفیسر کہیں تو ان کا کچھ احترام ہم پر لازم ہے، کچھ نہیں بلکہ پورا پورا احترام لازم ہے - میں مختصر آ عرض کرتا ہوں - میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ ملوں کو واگذار کیا جا رہا ہے - شاید ان میں سے بھی کچھ ہوں لیکن دوسری شکایت ان ملوں کے متعلق اور اس ایگریمنٹ مینجمنٹ ڈویژن کے متعلق یہ ہے اور خصوصیت سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں آٹا سرے سے مل ہی نہیں رہا اور اس بات کے حوالے کے لئے ایک نہیں دو نہیں تین اخبارات اپنے ہمراہ لایا ہوں اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مرکزی و صوبائی متکمہ جات میں آپس میں کچھ گڑ بڑ چلی آ رہی ہے - اسلام آباد اور راولپنڈی کی ملوں کو مناسب مقدار میں گندم مہیا نہیں کی جا رہی - ظاہر ہے کہ حکومت کے نوٹس میں یہ تمام اخباری خبریں آئی ہوں گی اور وہ ضرور اس کے متعلق کچھ کر رہی ہوگی لیکن لوگوں کے مصائب میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے - ویسے زبانی دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم غریبوں اور محتاج کشوں کے ساتھ ہیں لیکن جب ان کی امداد کا وقت آتا ہے تو ان کا نام و نشان نہیں ملتا تو اگر یہ مناسب خیال کریں تو مزدوروں اور محتاج کشوں کو اس مصیبت سے نجات دلائیں - خصوصیت سے اسلام آباد و راولپنڈی میں مناسب سپلائی کا انتظام کریں -

جناب چیئرمین ! اس مرحلے پر ایک دوسرا نکتہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ میں نے اس زمانے میں گزارش کی تھی کہ یہ تینوں قسم کی ملیں حکومت اپنی تحویل میں نہ لے - یہ عرض میں نے اس بنیاد پر کی تھی کہ ایک تو یہ ان کا انتظام درست طور پر نہیں چلا سکیں گے جس طرح دوسرے قومیاے گئے کارخانوں کا بیڑا غرق ہوا ہے اسی طرح ان کا بھی ستیاناس ہوگا - لیکن حکومت نے میرے مشورے کو قبول کرنا مناسب خیال نہ کیا - اب انہوں نے زیر بحث مسودہ قانون کے تحت چند کارخانے واگذار کرنے کا ارادہ کیا ہے - اب میں انہیں یاد دلاتا ہوں، ابھی آپ کے پیش رو جناب چیئرمین صاحب حکم دے گئے ہیں کہ تینوں بلوں پر اکتھی بحث ہو، اگرچہ اس پر مجھے تھوڑا سا اعتراض تھا لیکن چونکہ یہ ان کا حکم ہے اس لئے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند گزارشات دوسرے بلوں کے متعلق بھی عرض کرتا جاؤں گا -

تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ کارخانے قومی قبضے میں نہ لئے جائیں - کیونکہ مجھے خدشات تھے جو رہ رہ کر پورے ہو رہے ہیں - اب صورت حال کیا ہے - انہوں نے بتایا ہے کہ فوجی فاونڈیشن کے کارخانے ہیں اور اسی طرح بعض ایسے ادارے ہیں جو کہ قوم کی فلاح و بہبود کے لئے کام کر رہے ہیں، ان کی ملکیت میں ہیں اس لئے ان کو واگذار کیا جائے - تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کیا حکومت کا یہ فرض نہیں ہے کہ ان بیوگان اور یتیمی کا بھی خیال کیا جائے جن کی روزی کا سلسلہ محض ان کارخانوں میں حصہ داری سے چل رہا تھا - خواہ ان کا حصہ زیادہ تھا یا کم تھا - اور جن کے روزگار ان کارخانوں کے قومیاے جانے کے بعد بالکل منقطع ہو گئے ہیں کیا محترم وزیر مہلکت اور محترم گیلانی

[Khawaja Mohammad Safdar]

صاحب کے علم میں یہ بات ہے کہ آیا وہ اپیلیں جو متعدد بار اخبارات میں شائع ہوئیں، ان بیوگان اور یتامی کی طرف سے کہ ہمارے کارخانے داگزار کر دیئے جائیں کیا وہ قوم کا حصہ نہیں ہیں کیا یہ فوجی فاونڈیشن زیادہ اہم حصہ ہے یا پولیس ڈیپارٹمنٹ زیادہ اہم حصہ ہے - وہ بھی اسی طرح اس قوم کا اہم حصہ ہیں - بلکہ حکومت کی نہایت ہی اہم ذمہ داری اس بات کی ہے کہ وہ بیوگان اور یتامی کی امداد کرے ان کی کفالت کرے اگر وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکیں تو ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرے - لیکن بجائے اس کے کہ حکومت ان کی مدد کرتی حکومت کفالت کرتی حکومت ان کے لئے ذریعہ معاش پیدا کرتی جو ذریعہ معاش ان کے پاس تھا قومی حکومت نے وہ بھی چھین لیا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں - جن کا سرمایہ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ ہے اور جن سے فائدہ چھوٹے ملازمین نہیں، خواہ وہ فوج سے تعلق رکھتے ہوں یا پولیس سے تعلق رکھتے ہوں، اٹھاتے بلکہ بڑے بڑے افسر اٹھاتے ہیں - ان کا خیال اس حکومت کو آ گیا ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم غریبوں کے رکھوالے ہیں اور غریبوں کے دوست ہیں اور جو حقیقی معنوں میں امداد کے مستحق ہیں جو امداد کے طالب ہیں جن کیلئے نہ صرف اخلاص بلکہ ہمارا مذہب یہ حکم دیتا ہے کہ ان کی امداد کی جائے - ان کے کارخانے نہ لئے جائیں اور ان کارخانوں سے جناب چیئرمین! کیا ہوا - مجھے افسوس بھی ہوا انتہائی دکھ بھی ہوا اور حکومت کی بوالعجبیوں پر ہنسی بھی آئی -

جب ایک روز میں نے ٹی وی پر کائن جننگ ملنگ کارپوریشن کے چیئرمین کا انٹرویو سنا اور دیکھا - کوئی صاحب انٹرویو کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کتنی فیکٹریاں چلانے والے ہیں - تو چیئرمین صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ۶۵ فیصد فیکٹریاں چلائیں گے - ۳۵ فیصد بند رہیں گی - انہوں نے کہا صاحب یہ کیا ۳۵ فیصد کیوں بند رہیں گی - تو چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ صاحب ۳۵ فیصد بوسیدہ اور ناکارہ ہیں - اور اقتصادی طور پر ان کا چلانا منفعت بخش نہیں ہے اور ۱۰ فیصد آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چلنی چاہیئے تمہیں - لیکن چونکہ اس سال کپاس کی پیداوار کم ہوئی ہے - اس لئے ان کا چلانا بھی مالی اعتبار سے منفعت بخش نہیں ہے - خدا کا غضب ہے اس قدر عقل کے اندھے لوگ ہیں کہ لوگوں سے وہ تمام جائدادیں بھی چھین لی ہیں اور خود اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ ان کو چلائیں - جن کے پاس تمہیں ابھی پچھلے سال تک وہ چلاتے رہے ہیں - کیونکہ یہ موسمی کام ہے پچھلے موسم میں وہ سو فیصدی چلیں - کسی نے بند نہیں کیں - ایک پرائیویٹ آدمی کیلئے تو وہ منفعت بخش تھیں وہ ان سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہا تھا - لیکن جونہی قومی تحویل میں آئیں تو ایک چیئرمین صاحب نے جو غالباً ہزاروں روپے تنخواہ وصول کرتے ہیں - اور فضل ربی خبر نہیں ان پر کتنا ہوتا ہوگا - ہو سکتا ہے کہ وہ ویانٹدار بھی ہوں - میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بیک قلم ۳۵ فیصد جننگ ملز بند کر دیں اور جناب چیئرمین! میں آپ

کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اس ایوان کی خدمت میں یقین سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ۳۵ فیصد ملیں اگلے سال بالکل نہیں چلیں گی کیونکہ ان کے ایریا مینیجر اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے جو انہوں نے سفارشی رکھے ہوئے ہیں - بقول سید قائم علی شاہ صاحب کہ جمہوریت میں سفارش ضروری ہے - اور میرے نہایت ہی محترم دوست چوہدری محمد اسلم صاحب نے اس سفارش کے متعلق ایک ریزولوشن بھی پیش کر دیا ہے - مجھے اطلاع مل گئی ہے جو سفارشی لوگ اگریرین بزنس مینجمنٹ میں رکھے گئے ہیں وہ ان تمام ۳۵ فیصد کارخانوں کے پرزوں کو کبائریوں کے ہاں فروخت کر دیں گے - اگلے سال ان کارخانوں میں سے ایک بستی نہیں چل سکے گا - اور چیئرمین صاحب کا یہ بیان کہ ۳۵ فیصد ناکارہ ہیں صحیح ثابت ہو جائے گا - لیکن ایک سال کے بعد لیکن اگر آج وہ ملیں پرائیویٹ انرشپ میں ہوتیں - وہ اپنے سابقہ مالکوں کے پاس ہوتیں تو وہ اس سال بھی چلتیں - اپنا کاروبار کرتیں - اپنے مالکوں کی دولت میں بھی اضافہ کرتیں اور اپنے ملک کی دولت میں بھی اضافہ کرتیں - دوسری بات بھی سن لیجئے -

محترم وزیر مہلکت صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں - ان کا اپنا بیان ہے کہ رائس ملنگ کارپوریشن نے اٹن سال اس ملک میں پچاس فیصد دھان چھڑنے والی ملوں کو چلانا ہے - باقی پچاس فیصد ملیں بند رہیں گی کیا میں محترم وزیر مہلکت سے پوچھ سکتا ہوں کہ اگر آپ کا بیان غلط تھا تو اس کی تردید کیوں نہیں کی اور کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ سیالکوٹ میں نصف سے زیادہ ملیں بند ہیں - یہ جو اوسط آپ نے پچاس فیصد نکالی ہے - یہ آپ کہیں پچاس فیصد سے زیادہ چلائیں گے اور کہیں کم - یہ پچاس فیصد ملیں - ملک کا کروڑوں اور اربوں روپوں کا سرمایہ، یہ آپ کی ذاتی ملکیت نہیں - نہ ہی یہ سید قائم علی شاہ صاحب کی ذاتی ملکیت ہے کہ جو چاہیں اس سے کریں - یہ قوم کی ملکیت ہے اور محترم وزیر صاحب اور وزیر مہلکت کی وجہ سے یہ برباد ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے - اس حکومت پر ہے اس حکومت کے نامزد کردہ وزیر صاحبان پر ہے - وہ پچاس فیصد کارخانے جو کم و بیش سینکڑوں ادیبوں سینکڑوں گھرانوں کی کفالت کرتے تھے ان کو بند کر دیا - ان پر کام نہیں ہو رہا ان کے متعلق جناب چیئرمین! میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے سال وہ پچاس فیصد رائس ملز نہیں چل سکیں گی - ان کے پرزے سفارشات کی بناء پر متعین کردہ ملازم کردہ ملازمین کبائریوں کے ہاں فروخت کر دیں گے قوم کا لاکھوں اور کروڑوں روپوں کا نقصان ہوگا - نہ قائم علی شاہ صاحب کی جیب سے ایک کوڑی جائے گی اور نہ محترم چوہدری ممتاز احمد صاحب کی جیب سے ایک دمڑی جائے گی - نقصان قوم کا ہوگا اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ایگزیکوشن دی ہے اس کو پھیلا دیجئے - اس کو وسیع کر دیجئے - پچاس فیصد رائس ہسنگ ملز اگر حکومت نہ چلا سکی یا اس قابل نہیں کہ وہ چلائے یا ان کا چلانا ان کے نزدیک ان اکنامک ہے - غیر منفعت بخش ہے - مالکوں کو لوٹا دیجئے یہ حکومت ان کو معاوضہ

[Khawaja Mohammad Safdar]

دینے سے بچ جائے گی اور وہ ان ہی عمارتوں میں ان ہی زمینوں میں کوئی اور کام کر کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکیں گے ان کی مشینری بیشک وہاں سے اٹھا لیجئے - یا جیسے آپ نے ایک بلڈ کو سیل کیا ہوا ہے - ان کو سیل کر دیجئے کوئی کام نہیں کر سکیگا کیونکہ کام کئی اجارہ داری تو حکومت کے پاس ہے کوئی اور اگر کسی طرح کام کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا - خواہ آپ وہاں سے مشینری اٹھا لیجئے اور اگر آپ اٹھانا نہیں چاہتے کہ اٹھائیں گے تو معاوضہ دینا پڑے گا - اور اگر آپ معاوضہ نہیں دینا چاہتے اور آپ چھٹکارا چاہتے ہیں تو وہ کارخانے سالم کے سالم ان کو لوٹا دیجئے اور کہئے کہ صاحب آپ اس قانون کے تحت چاول چھڑنے کا کام نہیں کر سکتے کوئی اور کام کر لیں - شاید وہ تیل نکالنے کا کام کر لیں - اس لئے کہ جب آپ پچاس فیصد کارخانوں کو چاول چھڑنے کے کام میں استعمال نہیں کرتے تو کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ آپ ان کارخانوں پر دھرنا مار کر بیٹھے رہیں اور ان پر قبضہ جاری رکھیں اور ۳۵ فیصد کالٹن جننگ ملز جن سے آپ نے کام نہیں لیا کوئی کوئی وجہ نہیں کہ دو - دو - چار - چار - چھ - چھ ایکڑ زمین اور اس پر وسیع عمارتیں جن سے کوئی منفعت حاصل نہیں ہو رہی - ان پر حکومت معاوضہ دے اور جب تک وہ معاوضہ ملے ان کارخانوں کے مالک بھوکوں مرین ان کو واپس کیجئے - ان لوگوں کو لوٹا دیجئے یہ حکومت معاوضہ ان کو معاوضہ دینے سے بچے گی - خزانہ عامرہ پر بوجھ نہیں پڑے گا اور وہ لوگ جن کے کارخانے ان اگنامک ہیں - وہ ان کارخانوں کو کسی اور طریقے سے استعمال کر کے قوم کی دولت میں اور ملک کی دولت میں اضافے کا باعث بنیں گے اور اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کا ذریعہ بھی وہ بن سکیں گے - اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ استثناء جو اس ترمیمی بل کے ذریعے اس ایوان میں پیش کی گئی ہے ان تینوں میں یہ خامی ہے ان تینوں کا مقصد چند ایک اداروں جو بڑے بڑے موثر ادارے ہیں - جو حکومت میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں - ان کو چھوڑنا ہے - ان کو چھوڑنا ہی کافی نہیں بلکہ ان تمام کارخانوں کو جو کہ بیوگان کے ہیں جو کہ یتامی کے ہیں اور جن کو آپ نے نہیں چلانا اور نہ ہی وہ آپ سے چل سکیں گے کیونکہ آپ کے بڑے ذمہ دار افسر کہہ چکے ہیں کہ ان کا چلانا غیر منفعت بخش ہے ان کو چھوڑیئے - ان سے اپنی جان چھڑائیئے ضرر نہ کیجیئے کیونکہ قومی معاملات میں کوئی ذاتی عزت و وقار کئی بات نہیں ہوتی - جو درست بات ہے وہ کیجئے جس سے قوم کو منفعت حاصل ہو قوم کا فائدہ ہو وہ کام کیجئے -

جناب چیئرمین ! میں نے وزیر مہلکت کی خدمت میں آپ کے توسط سے ایک راستہ عرض کر دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ محترم وزیر صاحب اس ایوان کے سامنے اس بل کی وضاحت کریں گے - میں دوبارہ ان کی خدمت میں، کسی وقت اس بحث کے دوران، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو سبب خراشی کروں گا - میری درخواست ہے کہ اس بل کے دائرہ اختیار کو واضح کیا جائے -

جناب صدارت کفندہ آفیسر : یس، چوہدری عاچب -

چوہدری ممتاز احمد : میں نہیں بولوں گا -

(اس موقع پر جناب افضل کھوسو، سینیٹر مسعود احمد خان اور مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی بولنے کے لئے کھڑے ہوئے) -

Mr. Presiding Officer : Yes, Senator Afzal Khoso.

Mr. Afzal Khan Khoso : Sir, right from the outset. I would like to just briefly mention, as far as the philosophy behind this nationalisation is concerned that there are three points to it, Sir, in my mind. One is the social control of these mills, all these three type of mills. The second is to produce the better quality, especially with regard to rice, as it was argued before that the inferior quality rice was passed on to the Rice Export Corporation by hook or crook, and it was passed on as superior quality, which of course resulted in the fact that we lost our prestige, or at least in certain cases where these things did happen, we lost certain markets and prestige of the nation, because we could not supply them the specified quality of rice, which we are doing now. And, Sir, the third point, of course, the basic point was that the Government by bringing this nationalisation was bringing to an end the process of exploitation—exploitation by the middle man, exploitation by the miller, which was rampaged.

We all know, Sir, at least I am a grower, and there are so many people who are growers, in this August House, we know that there was tremendous lot of exploitation, and we had agitated against this exploitation, I remember, particularly with regard to the paddy growers, in a resolution moved by me, which was decided in May this year.

So, Sir, then we come to talk about the regional population, as Khawaja Sahib has done. Khawaja Sahib has mentioned certain things in respect of the quality of the wheat, the shortage of the new godowns and the shortage in the market of flour for consumption and has also made allegations with regard to cotton ginning. Of course, the honourable Minister of State will explain the allegations levelled by Khawaja Sahib and that 65 per cent of the Ginning Factories are at work at the present moment. There is no doubt that there was damage to Crops and the damage we have seen while travelling either by train or by road. We have seen all the way that it is a common thing in Sind and in the Punjab. I myself travelled and saw that the damage is quite considerable.

Then, we have to see the practicalities, Sir. All these mills and units, whether they are rice units or whether they are flour units or whether they are cotton ginning factories, they require repairs and overhauling each year. Even their original owners, millers, used to carry out these repairs, wherever necessary, and I think in most of the cases because if a machine, if a factory, practically runs for nine months a year, then it does require some amount of repair work and some type of repairs were quite major. So, Sir, I know about my own district that there are some rice husking plants and the hullers which are undergoing and some of them have undergone major repairs. Had it not been for the efforts of the Rice Milling Corporation, the original owners would have had to do it. So, it is not something new, but only in certain cases, where the major repairs even after having gone through, this process would not be economical for the time being for the one or the other reason, Sir, because it is a gigantic task. Then, these particular units are very few which are lying idle for these very reasons.

[Mr. Afzal Khan Khoso]

Now, Sir, again if we come and take the argument of Khawaja Sahib and decide that all the uneconomical units must go back to the original owners, then, Sir, there will be no end to it. Again talking about practicalities, Sir, there will be complaints again from the same source *i. e.* Khawaja Sahib, who has suggested this. Then he will start saying that the uneconomical units were only about 10 per cent in the country but about 40 per cent have gone back on this pretext because of red-tapism, because of this, because of that and because of other reasons. So Sir, talk about practicalities: It is again a hurdle. It is very difficult to determine each case. I am sure Syed Qaim Ali Shah Sahib or Choudhry Sahib is not to go and inspect each and every unit throughout the country.

So, we have the same difficulty again with regard to orphans and widows. That was the actual aim of this amendment which honourable Khawaja Sahib has brought in the Amending Bill that their interests must be safeguarded. But Sir I think with the provision of compensation in the original Act, their rights are quite safeguarded. They will get their compensation sooner or later but I think sooner than later in cases the amounts are not very large.

One or two other things, I would like to mention Sir, is that the difficulties that I have found in certain cases the people are facing and I can only speak with regard to rice husking mills or the Rice Milling Corporation. That is, Sir, that I would like certain steps to be taken. That all the small units whether you call them one huller units or whether you call them two huller units—I have never seen Sir, I have never owned a mill or a unit but I have heard from the people that there is no such thing in Pakistan as one huller unit, I am of course correct, I can be correct upon this thing. I stand to be corrected but I know there is no such thing as one huller unit throughout the country. There are always two hullers Sir. What is their job? Of course as I said I have never owned a mill so I don't know but I would request that all these two huller mills which were now called one huller mills, they should be released. I had said earlier also during the course of discussion on the main Bill that the object of these units was not commercial in its very nature. They were made, Sir, to provide the facilities for Haris, mostly Haris. Zamindars even won't send his four maunds or five maunds of paddy to these units. It used to be ordinary man, the Hari who has to send the maunds, who has to take in his own bullcart and he would get it husted at a normal rate and of course they had a Chaki there also and normally he wanted some flour, rice flour which is normally eaten by the people at least in my area. They could have these facilities also in these two huller units. So, I don't know how this idea came that they are one huller units but I would suggest it and request to the honourable Minister of State that these are two huller units and they must necessarily be released for the consumption for the facilities to be provided to the rural population in this country I must say they are facing great hardships because of these units not being released. At this time if a person, if a Hari who wants to have five maunds or 10 maunds husked for which normally he would have had to go only two furlongs away, now he may have to go even ten, twenty or fifteen furlongs to get it husked and I am sure he will not have the same facilities in the Rice Milling Corporations because they are the commercial business—big and huge class of task. So Sir, my suggestion is that these two huller units should be released immediately if we are to achieve the ends for which the original Act came into being.

Then, Sir, since it is a new task, it is a gigantic task, it is a beginning and not the end we had suggested in this House; I think the whole House was one on the point that there should be some Supervisory Committees and some Advisory Committees. I remember the words used by Senator Farooq Leghari when he suggested

that there should be some Vigilance Committees to supervise the work of District Managers, Area Managers etc. By that we did not want to delegate all the powers to ourselves. We wanted to perform certain functions—functions which are necessary for a big task like this at least in the initial stages. Nothing has come of that. I think something should be done soon because the people are facing certain difficulties in the rice growing areas. These difficulties I had pointed out to the District authorities as well and it is my duty that I should also point them out over here while I am on this general debate. Those are, of course, with regard to rice that there is delay in entering the Mill and there is delay in the weighing of paddy, and of course, there is some sort of delay necessarily in cashing or issuing of cheques. But the main complaint that I had come across was that delay was caused which, of course, goes to the very root of the thing. People want that whenever they bring their grain it should be disposed of at the same speed at which they thought that it should be disposed of. So if the Supervisory Committees of representatives of the growers and certain public representative are formed, I am sure we can deal with these things. They are not such big things that they should come necessarily to the National Assembly or for that matter to the Senate. We can deal with them over there.

Then, Sir, as regards this congestion which causes delay there is another way of getting rid of this congestion and that is by over-hauling the purchase policy with regard to paddy. The question arises as to how this can be done? The answer is very simple. Instead of having huge purchase centres concentrated in the cities or at the mill gates, we should spread them out throughout the country. It will cost a bit. They will have to keep Purchase Officers and also perhaps a couple of Cashiers. But, Sir, money is not the main motive. This is not the motive that the Rice Milling Corporation should go into business to save money or to earn more money which the previous mill owners did. The motivation and the philosophy behind it is that we must do the highest good to the highest number, that is, about 75 to 80% of the people—the rural people, the growers of paddy or wheat or for that matter the cotton growers.

Then, Sir, there is another aspect which I came across. I would like to suggest to the honourable Minister of State that in the Rice Milling Corporation, the Cotton Ginning Corporation and the Flour Milling Corporation there should be a separate Operation Wing and a separate Maintenance Wing because if you combine these two things then there will be lot of hurdles. Then, of course, there will be checks, and re-checks and re-checks and doubts and every thing will go topsyturvy, I think it would be better to divide these two things. Here, Sir, we have been talking about practicalities and this is my practical suggestion, because as I have said majority of these mills have got to go through a process of maintenance and over-hauling each year. Either you have trust these people who are in the Operation side and if you do not trust them then you have to create a separate wing which should have got nothing to do with the Operation side.

Then, Sir, there is another difficulty which again I consider it my duty to mention here. Sir, there is a shortage of fresh crop rice for consumption at least in my district and I think also in most of the rice growing areas. For the ordinary consumer residing in towns and cities there is shortage because I think that procedure has not been devised or announced so far as to what would be the modus operandi if a person wants to buy rice. Can he get it from the Centre, or the ration shops? At the present moment there is no arrangement of this nature. I think this has created some difficulties for people residing in the urban areas specially in Sind. I do not know much about the other places. But, Sir, coming to the aim of the Amending Bill; having pointed out what I had to say, and having replied or tried to reply to the allegations made by honourable Khawaja Sahib;

[Mr. Afzal Khan Khoso]

I would support this amendment because it is necessary for us to protect the rights of those very few people, in certain cases not in all cases, for whom certain benefits were already provided. So it is an exemption which goes for those particular people, not necessarily the shareholders, but for those people for whom these people were operating like the Fauji Mills or the Police Foundation and so on. So I think this exemption, if granted, would meet the ends of justice and with all my observations and suggestions I thank you so much for listening to me.

Mr. Presiding Officer : Thank you very much.

کوئی اور بات کہنے کی ہے سینیٹر مسعود احمد خاں صاحب آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں -

جناب مسعود احمد خاں : بس جناب میں آج کی ترمیم تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا -

جناب صدارت کنڈرہ آفیسر : میں نے شروع ہی میں خواجہ صاحب سے کہا تھا کہ آپ بحث کے سکوپ کو جتنا بڑھائیں گے ظاہر ہے اسی سکوپ تک باقی دوست بھی جواب دینگے -

جناب مسعود احمد خاں : میں آج کی ترمیم تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں جو

ترمیم ہم آج اس بل کے ذریعے سیکشن تین میں کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے ہم ان چند ملوں کو مستثنیٰ کر رہے ہیں جن کا اصل مقصد ایسے مختیراتی اقدامات کو اپنانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کلاس کے لوگوں کو جن کو ان ملوں سے مفاد حاصل ہوتا ہے ان کو مستثنیٰ کرنا ہے خواجہ صاحب نے فوجی فاونڈیشن اور پولیس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تحت جو ملیں چل رہی ہیں ان کے بارے میں کہا ہے اور ان کو شاید معلوم ہی نہیں کہ وہ اصل میں بیوگان اور یتیموں کے لئے اور ان کے مفاد کی خاطر یہ ملیں لگائی گئی تھیں خواجہ صاحب نے اس میں یتیموں اور بیوگان کو علیحدہ علیحدہ ترمیم کے ذریعے پیش کیا ہے اور بات یہ ہے کہ یتیم کی تعریف اور عمر کا تعین تو کوئی نہیں کیا گیا ہے لیکن ان کا اصل مقصد اس ترمیم سے یہ تھا کہ ایسی بیوگان جن کے بچے کم عمر ہیں اور یتیم ہیں اسی بیوہ میں سے ہوں نہ کہ یتیم علیحدہ اور بیوہ علیحدہ یوں تو میرے خیال میں بڑے بڑے مل اونر بھی یتیم تھے اور اس ترمیم کا اصل مقصد ان اعدادوں کا ذکر تھا جن کا اظہار خواجہ صاحب نے اپنی تقریر میں کیا ہے اور ان کو cover کرنا ہے اور حکومت یقینی طور پر اس ترمیم سے ان مظلوموں کا حق جو ہے وہ مارنا نہیں چاہتی تھی بلکہ ان کی تمام مشکلات کو دور کرنا چاہتی ہے اور میں یہاں ضمناً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فوجی فاونڈیشن جو ہے یہ شہداء کے بچوں کو تعلیم کے سلسلے میں وظائف بھی دیتی ہے اور یہ پیسہ انہی ذریعوں سے کمایا جاتا ہے تو میں اس ترمیم کی پرزور حمایت کرتا ہوں اور خواجہ صاحب کے تمام تر مسگیونگیز ہیں ان کو اپنے دلائل سے ڈسپیل کرنے کی کوشش کی ہے باقی جہاں تک ان تمام قوانین کا تعلق ہے اس پر پھر نئے سرے سے بحث کی گئی ہے تو خواجہ صاحب اس کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ ملکی مفاد میں یہ بات ہے کہ اگر ہر مل چلے تو اس سے ملکی مفاد نہیں بنتا تو اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کسی مزدور کو نہیں نکالا ہے بلکہ حکومت نے اس مزدور کو بھی رکھا ہے جو ان ملوں میں کام کرتے تھے جو ملیں بند ہو گئی تھیں۔۔۔۔۔

Khawaja Mohammad Safdar : Question

جناب مسعود احمد خان : آپ نے تو نتائج کو سامنے رکھا ہے جو یہ ملیں آج کام کر رہی ہیں اور وزیر مملکت اس پر روشنی ڈالیں گے ممکن ہے کہ آئندہ چل کر ہمیں ایسے ذرائع اپنانے پڑیں اور ماڈرن ایکویپمنٹ کے ساتھ یہ ملیں چڑانی پڑیں اور اصل مقصد تو اس دولت سے ملک کو مالا مال کرنا ہے اندرونی اور بیرونی ذرائع سے نہ کہ تعداد سے۔ تو جناب میں اپنے دوست سینیٹر افضل خاں کھوسو صاحب کے دلائل سے بھی متفق ہوں اور مجھے امید ہے انہوں نے جو تجاویز یہاں پر پیش کی ہیں یقینی طور پر وزیر موصوف ان پر غور کریں گے۔ یہ یقینی طور پر ایک مشکل کام ہے، جولائی، کو آرڈیننس جاری ہوا اور فوراً کا محکمہ اس وقت تک تقریباً ”پرڈکیور“ کر چکا تھا کیونکہ گندم ہمارے علاقے میں پندرہ مئی کے بعد منڈیوں میں آئی شروع ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے وہ پرڈکیور کر لی گئی تھی۔ جہاں تک گندم کے خراب ہونے کا تعلق ہے، اس مرتبہ بھی آفات آسانی سے اس ملک کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ سٹوریج کا معقول بندوبست نہیں تھا۔ اور نہ انڈیسپیٹ کیا جا رہا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس بات پر پوری توجہ دے رہی ہے۔ ممکن ہے ان ملوں کو، جن کی نشاندہی خواجہ صاحب نے کی ہے، ۳۵ فیصد ملوں کو سٹوریج کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان ملوں سے اس قسم کے کام لیں جو دوسری ملوں سے لے رہے ہیں اگر وہ کافی نہ ہوئے تو یقینی طور پر ان کو سٹوریج میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔

جناب صدارت کنندہ آفیسر : شکریہ۔ فرمائیے مولانا صاحب۔

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : جناب والا! بل جو اس وقت زیر بحث ہے۔ اور فلور ملنگ کے سلسلے میں جو ترمیم آئی ہے اور اس کے بعد رائیس ملنگ اور کاٹن جننگ کے سلسلے میں چند اداروں کو مستثنیٰ قرار دیئے جانے کے متعلق ترمیم آئی ہے۔ جس وقت یہ آرڈیننس نافذ ہوا تھا اس وقت بھی یہ ترمیم آ سکتی تھی اور اس سے پہلے بھی آ سکتی تھی۔ بڑی تاخیر سے یہ ترمیم لائے ہیں۔ اگر اس میں کوئی افادیت تھی تو خواہ مخواہ انہوں نے تاخیر فرمائی اور اس طرح سے ایوان کا وقت ضائع کیا۔ جس وقت آرڈیننس نافذ ہوا تھا اسی کے ساتھ ہی ساتھ ترمیم لا سکتے تھے یہ تو ان کے علم میں تھا کہ ملک میں فوجی فاونڈیشن کے تحت کتنے ادارے چل رہے ہیں جن کا تعلق کاٹن جننگ سے ہوگا فلور ملنگ سے ہوگا۔ بہر حال اب یہ ترمیم آ گئی ہے۔ دیر آئید درست آئید۔

اس وقت یہ سوال زیر بحث ہے کہ آٹے کی ملوں کو قومی ملکیت میں لینے کا مقصد خاص طور پر یہ تھا کہ عوام کی طرف سے حکومت کو یہ شکایت موصول ہو رہی تھی کہ آٹے میں شیشہ ملایا جاتا ہے، آٹا ناقص ہوتا ہے اس میں کنکر ملاتے ہیں۔ پتھر ملاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس لئے لوگوں کو صحیح غذا فراہم کرنے کے لئے اور عوام کی صحت کو پیش نظر رکھتے

[Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqi]

ہوئے اور آٹے سے ہونے والے نقصان سے قوم کو بچانے کیلئے حفظ ما تقدم کے طور پر یہ اقدامات کئے گئے اور ان کو نافذ کیا گیا قومی تحویل میں لے لیا گیا اور اس کے بعد بیورد کریسی کے سپرد کر دیا گیا اب وہ اس کا انتظام چلا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اومنی بسیں حکومت کی تحویل میں ہیں۔ جو اومنی بسوں کا انتظام صحیح طور پر نہیں کر سکے عوام کو ٹرانسپورٹ کی مشکلات سے نجات نہیں دلا سکے وہ ملوں کا کیا انتظام کر سکیں گے۔ جو بسوں کا انتظام نہیں کر سکے، جو کہ گیراج میں کھڑی ہوئی ہیں یا ان کے انجن بک رہے ہیں ان کے پرزے بک رہے ہیں اور عوام کو تکلیف ہے لوگ چھتوں پر چڑھ چڑھ کر سفر کر رہے ہیں یہ ان کا انتظام نہیں کر سکے ملوں کا کیا انتظام کریں گے۔ بہر حال نیشنلائزیشن کا شوق تھا وہ پورا کر لیا اور اس دعوے کے ساتھ کیا کہ عوام کی صحت کے پیش نظر، آٹے سے جو مضریتیں ہو رہی ہیں اور عوام کی تکلیف کے لئے یہ اقدام کیا، یہ جواب تھا اس کا۔ اس سلسلے میں خواجہ صاحب نے بھی آپ کی خدمت میں اخبارات کے تراشے پیش کئے پنجاب اسمبلی کی کارروائی آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ اس پر بڑی لے دے ہوئی۔ اور بڑی بحثیں ہوئیں اور وہاں اعتراف کیا گیا کہ واقعی ناقص آٹا ہے۔ اور ہم نے اس کی نگرانی کے لئے کچھ اور لوگ مقرر کر دیئے ہیں آپ خیال فرمائیے کہ پہلے سے افسران موجود ہیں اور ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خالص آٹا لوگوں کو فراہم کریں لیکن ان افسران پر بھی اور افسران مقرر کئے گئے ہیں اور ظاہر ہے پھر بد عنوانی ہوگی پھر کہیں گے کہ ہم نے اور افسران مقرر کر دیئے ہیں اسی طرح سے ایک چکر چلا رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ہوگا کیونکہ یہ اس انتظام کو نہیں سنبھال سکتے اس کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتے۔ ان کو اعتراف کر لینا چاہیئے بجائے اس کے کہ یہ ترمیم لائیں، یہ لائیں وہ لائیں اور بل میں ترمیم لائیں جناب چیئرمین! میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مطمئن رہیں اور دیکھیں کہ ایک دو مہینے کے بعد پھر ترمیم لے آئیں گے کہ یہ ترمیم کرنی ہے۔ پھر تشریف لائیں گے سال ختم ہونے سے پہلے پہلے تشریف لائیں گے۔ سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں۔ اور سال میں بارہ ترمیمیں لے آتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لئے درد سر ہے۔

مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس حکومت کو کس حکیم نے یہ نسخہ تجویز کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی ملوں کو چھوٹے چھوٹے جو کاروبار ہیں، جننگ فیکٹریاں ہیں اور رائیس ملیں ہیں ان کو نیشنلائز کر دے۔ بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، دس دس بیس بیس ہزار روپیہ قرض لے کر کے، ادھر ادھر سے دس دس بیس بیس آدمی مل ملا کر اپنا کام کر لیتے ہیں۔ اور چلا لیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ان میں چار چار دس دس لاکھ روپیہ سرمایہ لگا ہوتا ہے کوئی ایسے کرڈ پتی لوگ نہیں ہیں ان کو خواہ مخواہ ناراض کر کے جو مسابقت تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے پہلے آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کہ ہمارا آٹا اچھا ہے دوسرا کہتا تھا کہ نہیں ہمارا آٹا اچھا ہے، اس مسابقت میں بہتر سے بہتر چیز لوگوں کو دستیاب

ہو جاتی تھی اب وہ صورت نہیں ہے - اب تو مسابقت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے - اسلئے کہ سرکاری طور پر ہر چیز مل رہی ہے سرکار کی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے اور چودھری ممتاز صاحب ماشاء اللہ جانتے ہیں کیونکہ وہ اس کے منتظمین میں سے ہیں اور سبتالی اللہ کیا انتظام ہوگا -

جناب صدارت کنندہ آفیسر : میرے خیال میں چودھری صاحب سے سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : وہ بھی فرمائیں گے - میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ان کو ضرور موقع دیا جانا چاہئے کہ

جناب صدارت کنندہ آفیسر : آپ کی سفارش ابھی مان لیتا ہوں -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : ان کی آواز ذرا بیٹھی ہوئی ہے اس لئے اگر ان کے لئے کوئی انتظام ہو جائے، غرارے وغیرہ کر لیں -

چودھری ممتاز احمد : مولانا صاحب جمعہ کل ہے اس لئے وعظ کل کر لیں -

جناب صدارت کنندہ آفیسر : میرے خیال میں مولانا صاحب ساری باتیں خواجہ صاحب نے تفصیل سے فرما دیں ہیں -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی : یہ وعظ سننا نہیں چاہتے اس لئے کہ ان پر اثر نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ چکنے گھڑے پر اثر کیا ہوگا - تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک اس ترمیم کے ذریعے ان کو مستثنیٰ قرار دیئے جانے کا تعلق ہے اس سے تو اتفاق ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پوری فلور ملوں کے انتظام کے سلسلے میں جو اقدامات کئے جا رہے ہیں آیا اس سے بھی عوام مطمئن ہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں، وہی ناقص آٹا سپلائی ہو رہا ہے بلکہ اب تو رشوت کا بازار گرم ہے بہت سے دوکاندار اور ڈپو والے جو اس کی قلت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ قلت بھی پیدا کر دیتے ہیں - اس کے بعد وہ بلیک میں پکنا شروع ہو جاتا ہے - بہت سے افسران جو فلور ملز پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بوریاں نہیں ہیں آٹا نہیں ہے مصنوعی قلت پیدا کر کے دوکانداروں سے پیسے لیتے ہیں کچھ افسران تو اس طرح سے رشوت کا بازار گرم کر دیتے ہیں - ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے اور اس کے ذریعے سے اشوت ستانی اور چور بازاری ہو رہی ہے -

جناب صدارت کنندہ آفیسر : اس بل سے متعلق کوئی بات فرمائیں -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: اصل میں اس کے نقائص بیان کر رہا تھا چونکہ پہلی خواندگی جاری ہے اور آپ نے اجازت دے دی تھی -

جناب صدارت کنندہ آفیسر: یہ بل جو پیش نظر ہے اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: ماضی میں جو اقدامات کئے گئے ہیں ان کی مزمت تو بہر حال کرنی ہے -

جناب صدارت کنندہ آفیسر: اس پر تو بحث بھی ہو گئی - سب باتیں ہو گئیں اب جس حد تک اس کا ذکر ضروری تھا وہ بھی آپ نے فرما لیا اب جو ترمیمی بل آپ کے پیش نظر ہے اس پر کچھ ارشاد فرمائیے -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: ابھی ابھی آپ نے تقاریر یہاں سنی ہوں گی -

جناب صدارت کنندہ آفیسر: میں نے اس وقت بھی یہی کہا - میں نے افضل کھوسو صاحب کی تقریر پر بھی یہی کہا اور خواجہ صاحب کی تقریر پر بھی یہی کہا - یہ ترمیمی بل صرف چند مستثنیات سے متعلق ہے - باقی سب باتوں کی اپنی جگہ تو اہمیت ہو سکتی ہے لیکن اس بل کی حد تک ان کی کوئی اہمیت نہیں بنتی - وہ غیر متعلقہ ہو جائیں گی -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: جناب والا! اگر اجازت ہو تو عرض کروں کہ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ جب بھی کسی بل کی پہلی امینڈمنٹ زیر بحث آرہی ہو یعنی وہ ایکٹ پہلی بار امینڈمنٹ کے بلے آیا ہو تو اس کا تفصیل سے ادپریشن کیا جا سکتا ہے - میں یہ سمجھتا تھا۔۔۔

جناب صدارت کنندہ آفیسر: اور کچھ نہ کہا جائے اس بات کے متعلق جو پیش نظر ہو -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: نہیں جو پیش نظر ہے اس کے متعلق میں نے عرض کر دیا کہ اس کو مستثنیٰ کرنا چاہتے ہیں -

جناب صدارت کنندہ آفیسر: اب خاصی بات ہو گئی ہے -

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: بہر حال اگر آپ کہتے ہیں کہ خاصی بات ہو گئی ہے تو میں ختم کر دیتا ہوں -

جناب صدارت کنندہ آفیسر: (وزیر مملکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) خواجہ معمر صفدر صاحب سے آپ نے امینڈمنٹ کی حد تک بات کر لی ہے - وہ پریس کر رہے ہیں یا نہیں؟

خواجہ محمد صفدر : میں گزارش کروں گا کہ ابھی ابھی پہلی خواندگی ختم کر لیجئے کیونکہ ڈیڑھ بجنے والا ہے ۔

جناب صدارت کنندہ آفیسر : خواجہ صاحب ایک ایک امینڈمنٹ ہے ابھی کر لیتے ہیں چوہدری صاحب پانچ منٹ لیں گے ۔

خواجہ محمد صفدر : ہم نے ان کی خدمت میں جو گزارشات کی ہیں ان کا تو جواب دیں کہ ہم صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں ۔

جناب صدارت کنندہ آفیسر : جی چوہدری ممتاز احمد صاحب ۔

چوہدری ممتاز احمد : جناب والا ! جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے ۔ معزز سینیٹر صاحبان نے اس بل کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور آٹے کے بارے میں خاص طور پر میرے دوستوں نے اعتراضات کئے ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کا جواب دوں ۔

جناب والا ! یہ آٹے کی یہی شکایات تھیں جن کی وجہ سے آٹے کی ملیں قومی ملکیت میں لی گئیں ۔ ملیں قومی ملکیت میں لینے کے بعد ان میں جو بہتری پیدا کی گئی ہے اس کے متعلق میں حکومت کے اقدامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ۔

جناب والا ! جب ہم نے ملیں لیں تو ہم نے ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا ۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ان ملوں میں خراب گندم کی پسائی کی جاتی تھی وہ گندم جو کہ موسمی حالات کیوجہ سے خراب ہو گئی تھی ۔ اب ہم نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ خراب گندم کی پسائی بالکل بند کر دی جائے اور اس طرح فوری طور پر تیرہ چودہ ہزار ٹن گندم جو کہ خراب ہو گئی ہے اس کی پسائی کو بالکل بند کر دیا گیا ہے جن کی وجہ سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آٹے کی کوالٹی بہتر ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ آٹے سے سوچی، میدہ نکالنا بھی بالکل بند کر دیا گیا ہے جب کہ سابقہ مالکان سات آٹھ فیصد کے حساب سے سوچی، میدہ نکالتے تھے ۔ اس کے علاوہ پرانے مل مالکان پانی کی مقدار زیادہ لگاتے تھے ۔ تاکہ آٹے کا وزن بڑھ جائے لیکن ہم نے ملوں کو واضح ہدایات دے دی ہیں کہ اب پانی کی مقدار اتنی رکھی جائے جس سے آٹا بنانا مقصود ہو ۔ یعنی جتنا کہ مشینوں کو آٹا بنانے کی ضرورت ہو اس لئے اب خالص آٹا ملوں میں تیار ہوتا ہے اور عوام کو سپلائی کیا جاتا ہے ۔ جناب والا ! میں نے اور سید قائم علی شاہ صاحب نے ان تمام ملوں کا دورہ کیا ہے ۔ اور ایک ایک مل کو دیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ ہر مل کی بوریوں پر مارکہ لکھا ہے ۔ وزن لکھا ہے اور ابھی تک ہمارے سامنے کوئی ایسی واضح شکایت نہیں آئی کہ فلاں مل کی بوری سے آٹا خراب نکلا ہے ٹھیک ہے ۔ نوائے وقت میں یہ خبریں چھپتی ہیں ۔ میرے دوستوں نے بھی فرمایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا یہ حق بھی ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کون سی چیز کی کوالٹی خراب ہے ۔ لیکن یہاں جو کچھ بتایا گیا ہے ۔ وہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے ۔

[Ch. Mumtaz Ahmad]

جہاں تک نوائے وقت اخبار کا تعلق ہے اس کا مسلک تو خواجہ صاحب کے مسلک کے ساتھ ہے۔ جناب والا! ہم نے یہ جو کارخانے لئے ہیں۔ ان کے متعلق ہمارے اپوزیشن والے دوستوں اور خواجہ صاحب نے یہ پالیسی واضح طور پر اختیار کر رکھی ہے۔ کہ یہ کارخانے کسی طریقے سے ان کے سابقہ مالکان کو واپس دلائے جائیں۔ لیکن میں حکومت کے ایک ذمہ دار رکن کی حیثیت سے واضح طور پر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حکومت نے عوام کے مفاد کے لئے جو ملیں یا کارخانے ٹیک اور کئے ہیں یا لئے ہیں یا جو زمینیں بڑے زمینداروں سے لیکر کسانوں کو دی ہیں۔ اب حکومت کسی قیمت پر بھی ان سے لے کر ان کو سابقہ مالکان کے حوالے نہیں کرے گی۔ کیونکہ یہ عوام کا حق تھا عوام ہی سے لیا گیا تھا اور عوام کو واپس کیا گیا ہے۔ میں خوش ہوں کہ اپوزیشن والوں نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے اور اب ملک میں انتخابات آنے والے ہیں اس میں یہ بتائیں کہ ہم غریبوں سے زمینیں اور کارخانے واپس لے کر امیروں اور سرمایہ داروں کو دے دیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم نے اور ہمارے قائد نے ہماری پارٹی نے لوگوں کو دئے ہیں۔ جناب والا! یہ ان کا واضح موقف ہے اور میں ان کو ان کے موقف سے ہٹانے کے لئے تیار نہیں لیکن میں نے ان کے سامنے حکومت کی پالیسی واضح طور پر بیان کر دی ہے۔

جناب والا! جہاں تک گندم کی کسی اور اٹے کی کسی کا سوال ہے۔ اس دفعہ ملک میں خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے گندم سب سے زیادہ پیدا ہوئی ہے۔ گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے اور ہم نے جو گندم خرید کی ہے۔ وہ بھی ایک ریکارڈ تھا۔ ہم نے ۲۳ لاکھ ٹن گندم خریدی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس گوداموں کا صحیح انتظام نہیں تھا اور گودام کم تھے۔ اس لئے ہم نے گندم کے لئے سٹور بنوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور کل بی قومی اسبلی کو بتایا گیا ہے کہ آئندہ دو سالوں میں ہم دس لاکھ ٹن کے نئے پختہ اسٹور تعمیر کر رہے ہیں جس کے بعد گوداموں کی کسی کی شکایات دور ہو جائے گی اور اب جو گندم خراب ہو گئی ہے۔ اس کو انسانی استعمال کے ناقابل قرار دے دیا گیا ہے اور اب اسے جانوروں کی خوراک کے استعمال میں لایا جائے گا۔

جناب والا! دھان کے بارے میں بھی میرے دوستوں نے کہا ہے کہ پرچیز سینٹرز کم تھے۔ جناب والا پہلا سال تھا اور ہم زیادہ پرچیز سینٹرز نہیں بنا سکے اور ہم نے ہر روایتی جگہ پر۔ منڈی پر اور جہاں بھی دھان پرچیز ہوتا تھا ہم نے پرچیز سینٹر کھولا ہے اور مل کے گیٹ پر بھی کھولا ہے اس کے علاوہ تمام ملک میں غلہ منڈی کے آڑھتیوں کو اجازت ہے کہ ان کے پاس جو دھان ہے وہ بھی ہماری رائس ملنگ کارپوریشن خریدے اور یہ حکومت کی پالیسی ہے کہ زرعی پیداوار کی خرید و فروخت کو دیہاتوں تک پہنچائے اور زمینداروں اور کسانوں کو جو دن رات محنت کر کے خود ہی فصل پیدا کرتے ہیں ان کو شہروں میں نہ آنا پڑے اور ان کا دھان وہاں ہی خرید لیا جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب انتظامات ٹھیک ہو جائیں گے۔

جناب والا! جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کارخانے کچھ پرسنٹ کم چلیں گے یہ کارخانے جو لگے ہوئے تھے یہ سارے ملک میں بکھرے ہوئے تھے اور یہ ذاتی مفاد کے لئے لگائے گئے تھے اور پہلے بھی پوری کیمپسٹی کے مطابق نہیں چلائے جاتے تھے۔ اب جناب والا! ہم نے جتنے بھی کارخانے چلائے ہیں وہ پوری کیمپسٹی کے مطابق چلائے ہیں۔ تاکہ جتنا عہدہ ہم نے رکھا ہے اور اس کے اخراجات بڑھا دیئے ہیں وہ اخراجات پورے ہو سکیں۔ البتہ کچھ کارخانے پوری طرح مرمت نہیں ہو سکے کیونکہ وقت بہت تھوڑا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کارخانے ہم نے نہیں چلائے ہیں۔ انشاء اللہ آئندہ سال ہم ان کی مرمت وقت پر کر لیں گے اور سب کارخانے چلائیں گے اور واپس کرنے کا تو کسی صورت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ہلر یونٹ جس کو ہم نے چھوڑا ہے اس کو بھی ہم نے پروکیورمنٹ ڈرائیو کے لئے چار ماہ کے لئے seal کیا ہے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ چاول کی تقسیم کا کیا بندوبست ہوگا۔ ہم نے تمام ملک میں سروس یونٹ چلانے ہیں جہاں پر کاشتکار مناسب چھڑائی دے کر اس پر اپنے کھانے کے لئے پچیس من چاول چھڑا سکتے ہیں اپنی لوکل نیٹز کے لئے جہاں تک شہروں کا تعلق ہے کارپوریشن عنقریب لوکل سیل کئی پالیسی کا اعلان کرے گی اور اب مقررہ ریٹ پر جتنی مقدار میں کوئی چاہے گا اس کو صاف ستھرے چاول مل سکیں گے۔ جناب والا! ہم نے سب سے پہلے برآمدات کی ضروریات پوری کرنی ہیں۔ اور اس وقت برآمد کی ضروریات پوری کیجا رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم عنقریب لوکل سیل کی پالیسی بھی بنا لیں گے۔

جناب والا! میں مولانا کی باتوں پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن قومی مفاد کے لئے ہمیں جو کام بھی کرنا پڑا ہم کرتے رہیں گے۔ ہم نے قومی مفاد کے لئے یہ کارخانے قومی تحویل میں لئے ہیں اور اب قومی مفاد کے لئے پولیس فاونڈیشن اور فوجی فاونڈیشن کے جو کارخانے ہیں کیونکہ یہ آرمی ہمارے ملک کے دفاع کی ذمہ دار ہے۔ ہمارے جیالے سپاہی جو اپنی جانیں دیتے ہیں اور ہمارے پولیس کے لوگ ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں اور لاء اینڈ آرڈر کا بندوبست کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی فیملیز کے لئے اور ان اداروں کے لئے ہیں یہ کارخانے یعنی ان کارخانوں کا انتظام انہیں واپس کرنا پڑا ہے اور ہم ہر وہ کام کریں گے جو قومی مفاد میں ہو۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یتیموں کو کارخانے واپس کئے جائیں۔ جناب والا! یہ انڈیوجیویل کا سوال نہیں ہے اس طرح تو ہر انڈیوجیویل کو جس کا باپ فوت ہو گیا ہو خواہ وہ جس عمر میں بھی ہو۔ وہ یتیم ہی قرار پائیںگا۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے ویسے بھی ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم کسی صورت میں یہ کارخانے واپس نہیں کرینگے ورنہ ہماری اصلاحات کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ میں محترم خواجہ صاحب سے گزارش کرونگا کہ خواہ وہ کسی بھی آنے بہانے سے پھر کہیں اس طرح کر لو۔ اس طرح کر لو۔ میں یہ واضح طور پر کہتا ہوں کہ ہم کارخانے واپس نہیں کریں گے۔ مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ تھے جن سے یہ کارخانے لئے گئے ہیں۔ جناب والا! بے شک یہ کارخانے دیکھنے میں چھوٹے ہیں۔ لیکن ان میں ملک کے بھٹ کے برابر تجارت ہوتی تھی جن میں سے

[Ch. Munitaz Ahmad]

سات ارب روپے کی برآمدات کی جاتی تھیں - تو یہ نہایت بنیادی اہمیت کے کارخانے تھے جن پر ہماری تمام زرعی معیشت کا دارومدار ہے اور ان میں چاول اور کپاس مل کر کے ہم غیر ممالک کو بھیجتے ہیں اور اس کی کوالٹی اور کوانٹیٹی کا خیال رکھا جاتا ہے - اس لئے میں مزید اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ اس پر پہلے بھی کافی بحث ہو چکی ہے - جناب والا! یہ ایک معمولی سی امینڈمنٹ ہے - میں گزارش کروں گا کہ اسکو پاس کر دیا جائے - میں معزز ممبران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ باتیں بتائی ہیں - حکومت اس سلسلے میں غافل نہیں ہے اور قومی خدمت کے لئے جو کچھ ہو سکا ہم کرتے رہیں گے -

Mr. Presiding Officer : Thank you very much.

The question before the House is :

“That the Bill to amend the Flour Milling Control and Development Act, 1976 [The Flour Milling Control and Development (Amendment) Bill, 1976], as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.”

(The motion was adopted)

Mr. Presiding Officer : The motion is carried.

خواجہ محمد صفدر : جناب چیئرمین! اب ہمیں اجازت دی جائے تھوڑی دیر بعد سٹینڈنگ کمیٹی نے میٹ بھی کرنا ہے اور میرے دوست بھی میرا لائبریری میں انتظار کر رہے ہیں اس لئے اب اجلاس ملتوی کر دیا جائے -

چوہدری ممتاز احمد : اب صرف پانچ منٹ کا کام ہے -

جناب صدارت کنندہ آفیسر : اس لئے ہم نے خواجہ صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ کا اب کیا خیال ہے - کیونکہ ان کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے - اور میرے خیال میں جو بل کی سپرٹ ہے - اس پر بحث ہو چکی ہے - اب چوہدری صاحب تیار ہیں انہوں نے آپنی پوری تقریر سنی ہے -

چوہدری ممتاز احمد : ہم نے ان کی پوری تقریر سنی ہے - اور پوری تقریر کرنے کا موقع دیا گیا ہے -

جناب صدارت کنندہ آفیسر : اور کل پرائیویٹ ممبر ڈے ہے -

خواجہ محمد صفدر : جناب والا! ایک گھنٹے بھر سے میں کورم کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں تاکہ کام ختم ہو جائے، میری درخواست مان لی جائے اور مجھے مجبور نہ کیا جائے -

جناب صدارت کننڈہ آفیسر : آپ اور لاء منسٹر صاحب کئی آج ان بلز کو پاس کرنے کئی
انڈر سٹینڈنگ تھی -

خواجہ محمد صفر : وہ آج غیر حاضر ہیں، ان بلوں سے پہلے ہم نے دو بل منظور
کمر لئے ہیں اور یہ بل بعد میں لئے جا رہے ہیں - انڈر سٹینڈنگ صرف پہلے تین بلوں کئی
تھی -

جناب صدارت کننڈہ آفیسر : ایک بل تو پاس کیا جائے -

خواجہ محمد صفر : ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتا -

Mr. Presiding Officer : So, the question before the House is :

“ That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.”

(The motion was adopted)

Mr. Presiding Officer : Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The question before the House is :

“ That Short Title, Preamble and Clause 1 stands part of the Bill.”

(The motion was adopted)

Mr. Presiding Officer : Clause (1), Short Title and Preamble stand part of the Bill.

Ch. Mumtaz Ahmad : On behalf, Sir, I beg to move :

“ That the Bill to amend the Flour Milling Control and Development Act, 1976 [The Flour Milling Control and Development (Amendment) Bill, 1976], be passed.”

Mr. Presiding Officer : The motion moved is :

“ That the Bill to amend the Flour Milling Control and Development Act, 1976 [The Flour Milling Control and Development (Amendment) Bill, 1976], be passed.”

Khawaja Mohammad Safdar : Not opposed.

Mr. Presiding Officer : The question before the House is :

“That the Bill to amend the Flour Milling Control and Development Act, 1976 [The Flour Milling Control and Development (Amendment) Bill, 1976], be passed.”

(The motion was adapted)

Mr. Presiding Officer : The Bill stands passed.

کل صبح ساڑھے ۹ بجے ٹھیک ہے -

جناب مسعود احمد خان : ۱۰ بجے ٹھیک ہے -

Mr. Presiding Officer : The House stands adjourned to meet again tomorrow at 10 a. m.

[The Senate then adjourned to meet again at ten of the Clock in the morning on Friday, November 19, 1976.]